

رنگیلا رسول

(حضرت محمد صاحب کی زندگی کا خاکہ)

مصنف

سوامی پنڈت چھوپتی ایم اے

Jurat-e-Tehqiq

ناشر: محمد رفع

تکاری منڈی، پوسٹ بکس نمبر 420

دلي-6



رنگیلا رسول

(حضرت محمد صاحب کی زندگی کا حقیقی "پاک" خاکہ)

مصنف

سوائی پنڈت چھوپتی ایم اے

Jurat-e-Tehqiq

ناشر: شہید اعظم - مہاشے راجپال

لاہور



انتساب

اس عظیم جنگجو، بہادر اور عالم کو یہ کام پیش ہے جس نے پورے عالمِ انسانیت کو "حضرت محمد صاحب" کی زندگی کے حقیقی خاکے کو نشر کر واکر درست راستہ دکھایا اور جو خود چھرا کھا کر شہید ہو گیا۔ ایسے شخص کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔

Jurat-e-Tehqiq

مصنف: چھپتی ایم اے



دیباچہ

شائع کردہ کتاب میں مصنف نے حضرت محمد صاحب کی زندگی کو پچھیں برس بعد سے شروع کیا ہے، اس سے پہلے کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ نئے قارئین کی مزید معلومات کے لیے ولادت سے پچھیں برسوں کی زندگی کا مختصرًا تعارف کرانا میں اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں۔

حضرت محمد کے والد کا نام عبد اللہ تھا، جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو عرب کا ایک اہم قبیلہ تھا اور تمام قبائل میں اپنا اہم مقام رکھتا تھا۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول یہر کے روز (11 نومبر) سن 569 عیسوی کو مکے میں ہوا۔ آپ کے والد عبد اللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی ابتدائی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ ان کے انتقال کے بعد (تب آپ کی عمر صرف آٹھ برس تھی) آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔

آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنا دودھ پلا کر بڑا کیا لیکن مقامی رسم و رواج کے مطابق کچھ عرصے کے لیے وہاں کے قریبی گاؤں میں جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے ایک حلیمه سعدیہ نامی عورت کے پاس بھیج دیا گیا۔ گاؤں سے لوٹنے پر تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری ذمہ داری آپ کے چچا کے اوپر آگئی۔ چچا کا کاروبار تھا، آپ کو بھی اپنے کاروبار میں لگا دیا اور بکریاں چرانے کا کام دیا گیا۔ اسی طرح بکریاں چراتے چراتے وقت گذر گیا اور آپ نے جوانی میں قدم رکھا، آپ کو خدا نے غصب کا حسن، چست بدن، صاف



دل اور دل میں ایمانداری بخشنی۔ آپ کی تمام زندگی غربتی اور جدوجہد میں گذری، ماں کا سایہ ہی بچپن میں اٹھ گیا تھا۔ والدہ کا پیار کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو کبھی تحریر بہ نہیں ہوا۔

پچھیوں برس میں ایک خوشحال بیوہ عورت خدیجہ جو اس وقت چالیس برس کی تھی، کی آنکھ حضرت سے لڑکئی اور وہ بھی اپنا دل دے بیٹھے، ان کی بھی پچھیں سال بعد لاٹری سی کھلی تھی، جس پیار کے لیے بے چارے پچھیں برس تک ترستے رہے، وہ سارا پیار جو والد اور والدہ کے روپ میں حاصل ہوا، اتنی اچھی قسمت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اگر اس وقت خدیجہ کی عمر ساٹھ برس بھی ہوتی تو حضرت ان کی پیشکش نہ ٹھکراتے۔

اب آپ محمد صاحب کی زندگی کے پاک خاکے کو دھیان سے پڑھئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے، کیوں کہ ایسا معلوماتی دور حیات مشکل سے ہی کسی خدا کے پیغمبر کو ملے گا جس پر چل کر جنت ہی جنت ہے۔ جس میں ہر بات کو دلیل کے ساتھ ہی پیش کیا گیا ہے، جس کو تمام سنی مسلمان بھائی من و عن مانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو وزن کارستہ سمجھتے ہیں تو آج ہی دیئے گئے انعام کو واپس لے سکتے ہیں کیونکہ بغیر حقیقت جانے کسی کا مرید ہو جانا فطری عمل ہے۔

اس پوری زندگی کے خاکے کو بغیر کسی امتیازی سلوک کے لکھا گیا ہے۔ جس صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس برادری کی بنیاد رکھنے والے خود ہی اتنے پاک صاف رہے ہوں جس کی مثال تاریخ میں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی تو ان کے احکامات اور اصول کتنے معلوماتی ثابت ہو سکتے ہیں؟ قارئین خود غور فرمائیں۔

تلقیم کننده

محمد رفیع



پیغمبر کی تعریف

چمن میں ہونے دو بلبل کو پھول کے صدقے
میں تو جاؤں اپنے رنگیلے رسول کے صدقے
سدا بہار سجیلا رسول ہے میرا
ہوں لاکھ پیر رسیلا رسول ہے میرا
ذو جمال چھبیلا ہے رسول میرا
رہیں عشق رنگیلار رسول ہے میرا
چمن میں ہونے دو بلبل کو پھول کی صدقے
میں تو جاؤں اپنے رنگیلے رسول کے صدقے
کسی کی گبڑی بنانا ہے بیاہ کر لیں گے
بجھا چراغ جلانا ہے بیاہ کر لیں گے
کسی کا روپ سہانا ہے بیاہ کر لیں گے
کسی کے پاس خزانہ ہے بیاہ کر لیں گے
چمن میں ہونے دو بلبل کو پھول کے صدقے
میں تو جاؤں اپنے رنگیلے رسول کے صدقے

پنڈت چھوپتی ایم اے



خدا کے آخری پیغمبر
حضرت محمد صاحب
کی زندگی کے حنایہ کی
شروعات

Jurat-e-Tehqiq



خانہ دار پیغمبر

محمد کی عظمت اس میں ہے کہ وہ خانہ دار پیغمبر ہے، مسلمان بھائی محمد کی اس عظمت کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جو بات دوسرے پیغمبروں میں نہیں ہے وہ محمد میں ہے، یہی محمد کی فضیلت ہے۔ یہ بات میرے دل میں لگتی ہے۔

"دیانتند" بال بر ہمچاری ہیں، وہ دیوتا ہیں اور میں ایک معمولی انسان ان کی عظمت کو کہاں پہنچوں؟

"مہاتما بدھ" نے شادی کی مگر گھر سے نکل گیا۔ جوانی میں عورت اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر سادھو بن گیا۔ مجھے نہ ہی ان کے سادھو بننے کی چاہ ہے اور نہ ہی اس سے اختیار کرنے کا حوصلہ ہے۔ "عیسیٰ" نے گھر بار بسانے کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ "محمد" نے شادی کی، نہیں نہیں شادیاں کیں۔ ہر طرح کی عورت سے شادی کی۔ بیوہ سے، کنواری سے، بوڑھی سے، جوان سے، ہاں ہاں ایک نابالغ سے شادی کی۔ ہر قسم کی شادی کا رنگ دیکھا، اس کے بھلے برے کو پڑھا، ہی نہیں بلکہ اس نے اسے آزمایا اور پر کھا بھی۔

محمد ایک تجربہ کا پیغمبر ہے۔ اس کے الہام کی بنیاد اس کا تجربہ ہے، تجربہ بھی ایسا تجربہ الامان؛ محمد نے اسے میٹھا گھونٹ سمجھ کر پی لیا، کس کے لیے صرف سب کے فائدے کے لیے اور دوسروں کو نصیحت دینے کے لیے۔ محمد کی زندگی تعلیمات ہے۔ احکامات سے بھری ہوئی، اور عبادات سے بھرپور، واقعی محمد "سید ہمارستہ دکھانے والے" ہیں۔

میں خانہ دار! میرا پیغمبر خانہ دار، وہ میرا گرداور میں اس کا چیلہ ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گرو کی اچھی باتوں کو اپناو اور بری باتوں کو چھوڑ دو۔ اس نظریے سے آج ہم گھر بار والے، رنگیلے، چھبیلے، رسیلے رسول کی زندگی کے بارے میں خانہ داری پر ایک رسیلی نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ محمدی (مسلمان) اور غیر محمدی (غیر مسلم) سب اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ محمد تو محدثوں اور غیر محمدیوں دونوں کا ہے۔

"برہم پاری" محمد

محمد کی پہلی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی، یہاں تو آریہ سماج والوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ محمد نے شاستر کے مطابق زندگی کا پہلا حصہ کنووارے رہ کر گزارا۔ محمد برہما چاری تھا اور اس کا حق تھا کہ وہ شادی کرے۔

ہم سب سے پہلے محمد کے اس کنووارے پن پر ایک نظر ڈالنے ہیں، کیوں کہ دنیا میں ایسے بد بودار دماغ والے لوگ ہیں جو ناحق بھلے انسانوں کی عادتوں اور ان

کے کام کا ج پر شنک کرتے ہیں۔

ہم محمد کو برہما چاری مانتے ہیں، کیوں کہ اس نے اس بارے اپنی شہادت خود دے رکھی ہے۔ ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایک قریشی لڑکے کے ساتھ مل کر بکریاں چڑھا تھا، میں نے اس لڑکے سے کہا کہ ”اگر تم روپڑ کی دلکشی بھال کرو تو میں جاؤں؟ اور جس کام میں نوجوان رات گزارتے ہیں، میں بھی جاؤں۔“

یہ کہہ کر محمد مکہ چلا گیا مگر ایک شادی کی دعوت نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور اس کو نیند آگئی۔ ایک اور رات وہ پھر اسی ارادے سے مکہ پہنچا مگر جنتی ترغیبات نے اس کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا اور اسے سوتے سوتے نیند آگئی۔ محمد کہتا ہے کہ ان دو واقعات کے بعد میرا دل برائی کی طرف نہیں بڑھا۔
(”حیات محمدی“، میور صاحب)

ہمیں محمد کے قول پر اعتماد ہے، کیونکہ اسے امین کہا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دل گناہ کے نتیجے سے بچا ہوا تھا۔ دو ہی دفعہ اسے شیطان نے در غلانے کی کوشش کی مگر خدا ہی محرکات ہی اس میں مددگار ثابت ہوئے اور ہمارا ”رنگیلا رسول“ اس گمراہی کے گڑھ سے بال بال نج گیا۔ اس نے عملًا جسمانی طور پر گناہ نہیں کیا۔

محمد پہلے برہما چاری تھا، اس نے 25 برس کی عمر تک شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کی امنگلوں کو بچاتا رہا۔



مائی خدیجہ

ہم خدیجہ کو ”مائی خدیجہ“ ہی کہیں گے کیونکہ اس کی عمر 40 برس کی تھی جب وہ محمد کے حرم میں آئی، بلکہ اگر سچی بات لکھی جائے تو یوں کہئے کہ محمد خود اس کے گھر میں گئے تھے۔ محمد 25 برس کے تھے، شکل و صورت کے خوبصورت تھے، شریف گھرانے سے ہی نہیں بلکہ شریف ٹھکانے کے بھی تھے۔

خدیجہ بیوہ تھی، وہ قریشی یعنی محمد کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ان کے دو شوہر فوت ہو گئے تھے، وہ بال بچے والی تھی لیکن محمد اور اس کی عمر کا یہ مقابلہ تھا کہ خدیجہ کے پاس دولت تھی، جب تاجریوں کے گروہ مختلف ممالک جاتے تھے تو وہ بھی اپنے ایجنت روانہ کرتی تھی۔ خدا برکت دیتا تھا، تجارت میں اضافہ ہوتا تھا اور خوب منافع ہوتا تھا۔ پورا مکہ اسے جانتا تھا، شادی کی۔ درخواستیں بھی کئی باکنے دل جلوں نے دی تھی مگر وہ اپنی دولت اور حالت زندگی پر مطمئن تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کا جھنجھٹ اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایک سال تک اس نے محمد کو بطور ایجنت تاجریوں کے گروہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ ایماندار تھا اور تجارت میں او سطًا زیادہ فائدہ اٹھایا۔ خدیجہ مکان کے چھت پر بیٹھی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے ایک شتر سوار آتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ کون تھا؟ محمد! محمد نے تجارت کا حساب کتاب دیا اور اپنی اجرت لے کر واپس چلا گیا۔ اس کی شر میلی



آنکھیں، ضرورت سے کم بولنا، قدرتی خوبصورتی اور تجارت میں ایمانداری، بے تکلف کی سادگی جو دل میں تھی وہی زبان پر آئی۔ بڑھیا کے دل پر یہ بے ساختہ اثر کر گئی اور اس نے اسے اپنا شریک حیات بنانا چاہا۔

خدیجہ پاک دامن تھی، لوگ اس کے حسن اور ان کی دولت کے پروانے تھے لیکن یہاں تو وہ خود دل پروانہ بن کر گری پھر ایسی کون سی شمع تھی جو اسے گرتا دیکھتی اور چک نہ اٹھتی۔ منه پھیر لیتی یا اسے الٹارخ دکھاتی؟

خدیجہ کا والد زندہ تھا اور اس کو اندریشہ تھا کہ وہ راستے کا روڑا بنے گا۔ اسی وقت خدیجہ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس میں اس نے اپنے اور محمد کے خاندان والوں کو مدد عکیا اور شراب ڈھلنے لگی۔ خدیجہ کا والد بھی اس تقریب میں شامل ہوا لیکن وہ حد سے زیادہ پی گیا، بوڑھا تھا اور بہک گیا۔ یہی وہ موقع تھا جس کی تاک میں سب لوگ تھے۔ اسے شادی کے کپڑے پہننا دیے گئے اور اس کا (خدیجہ) نکاح ہو گیا۔ جب اس کے والد کو ہوش آیا تو وہ ہکا باکارہ گیا مگر پچھی پچھرے سے نکل چکا تھا، بڑے اور بزرگوں کا کہنا ماننا پڑا۔ آخر کار وہ خاموش ہو گیا۔ (“حیات محمدی” میور صاحب)

خیر، محمد دو لہا ہوئے، مائی خدیجہ کے شوہر بن کر اس کی جان و مال کے مالک اور محافظ بنے۔ بچپن میں غریب ہو گئے تھے، بہت دنوں تک ماں کی مامتا کا سکھنہ دیکھا تھا۔ اس عورت سے شادی کر لینے پر دونوں مرادیں پوری ہوئی۔ محمد اسے چاہے جو بھی کہے لیکن ہم تو اس کو مائی خدیجہ ہی کہیں گے، وہ ہماری ماں ہیں اور



آریہ شاستروں میں ایک حالت میں عورت کو ماں بھی کہا گیا ہے۔

”یہ مائی خدیجہ کی تیسرا شادی تھی، مائی خدیجہ سے محمد کو چھ بچے ہوئے جس میں دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں۔ پہلا بیٹا قاسم جو دو برس کی عمر میں فوت ہو گیا اور دوسرا جو بلکل بچہ ہی تھا، چل بسا۔“ (سیرت النبی، مولانا نشلی)

ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ ایک عورت 40 یا 45 برس کی عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے، مگر اس عمر میں پیدا ہونے والے بچے زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کرنی ہو تو عورت کی یہ عمر اس مقصد کے لاکن نہیں اور خدیجہ کی عمر اس اعتبار سے شادی کرنے کے لاکن نہیں تھی۔ محمد اکیلے رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، خیالات کی دنیا میں مست رہتے تھے، پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں اور ریگستانوں میں بلکہ گھر کے کونے میں جا بیٹھتے اور اپنے دل سے باتیں کیا تھے۔ یہی پاگل پن ان کی پیغمبری کی بنیاد تھی۔

اگر روزی روٹی کی فکر ہوتی تو یہ آزادی کہاں ملتی؟ اور پیغمبر کا دعویٰ کیوں کر ہوتا؟ عرب میں نہایت خوفناک گناہ ہوتے تھے اور محمد کا دل نیکی کے خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ عربی بتوں کی پوچھ کرتے تھے اور محمد صاحب نے کھلے میدان میں، کھلے آسمان میں اور بڑے بڑے جنگلوں میں کسی بڑی طاقت کا اندازہ لگایا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ایک ہے اور اس کی کوئی صورت یا شکل نہیں ہوتی۔

خدیجہ کے غلاموں میں ایک زید نامی عیسائی غلام تھا، اسے محمد کی بات چیت



ہوا کرتی تھی اور عیسائی مذہب کے مطابق محمد کو بھروسہ دلاتا تھا۔ محمد کو زید سے زیادہ محبت ہو گئی تھی اور اسے خدیجہ سے اپنے لیے مانگ لیا۔ خدیجہ کے رشتے داروں میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو عیسائی مذہب کو مانتے تھے۔ انہوں نے محمد کے دلی حوصلوں کو مٹانے میں پوری مدد کی۔

محمد کو یقین ہو گیا کہ دنیا کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اسے اپنی اس حالت پر رونا آتا تھا اور اس کے دل میں گہر ا درد تھا جو عربی میں بڑے ہی دلچسپ شعروں کی شکل میں کبھی کبھی نکل رہا تھا، یہی قرآن کی پہلی آیت ہے جو نہ جانے کس کے لیے قرآن کے آخر میں لکھی گئی ہے؟ اس میں تڑپ اور تیزی ہے، سچائی ہی نہیں بلکہ اصلیت کی تلاش ہے۔

محمد کا حوصلہ بڑھتا گیا اور صبر نہ ہونے پر آخر اسے خیال آیا کہ خود کشی کر لینی چاہئے، کیوں کہ اس رونے دھونے کی زندگی سے کیا فائدہ؟ یہاں پر خدیجہ کا بڑھا پا بہت کام آیا اور کوئی نوجوان عورت ہوتی تو اس کو پا گل سمجھتی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، خود ڈرتی اور دوسروں کو بھی ڈرتاتی۔ خدیجہ نے محمد کو صبر کا حوصلہ دیا۔ محمد کو شنک تھا کہ مجھ کو جن و بھوت کا اثر ہے اور یہ الہام نہیں بلکہ شیطان کے کرتوت ہیں۔ خدیجہ نے بھوتوں کو جانچ پڑتال کی اور محمد کو بھروسہ دلایا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کا پیغام درست ہے۔ جب محمد نے کہا کہ یا تو وہ دنیا کو بدلتے گا یا خود کو ختم کر دے گا، تب خدیجہ نے دنیا کو بدلنے والے ارادے کا خیر مقدم کیا اور خود اس نئے مذہب کی تبلیغ میں محمد کی مدد گار ثابت ہوئی جس کا

اس نے منصوبہ بنایا تھا۔ (قصص الانبیاء)

محمد کو الہام کے وقت بہت تکلیف ہوتی تھی، اس کے منہ سے جھاگ آنے لگتی، سارے بدن سے پسینہ نکلتا اور باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے افراد کا خیال تھا کہ وہ مر گی کی علامت تھی اور محمد اس وقت مریض ہو جاتے تھے۔ تب خدیجہ اس کی خدمت کرتی تھی، اس کے جسم پر کپڑا ڈالتی تھی اور پانی چھینٹ دیتی تھی، مطلب یہ اسے ہوش میں لا تی تھی۔ (بخاری باب الوحی)

محمد کی پیغمبری کے پہلے آنسو خدیجہ کی گود میں بہائے گئے۔ یہ کہانی بہت طویل ہے، قصہ یوں ہے کہ محمد نے اپنے آپ کو موجودہ مذہب اور اس کے قانون سے الگ کر لیا اور اپنے پیراؤں کو بھی پچھلے مذہب سے باغی بنانے کیلئے احکامات دینے لگا۔ اس لیے اس میں محمد کی مخالفت پیدا ہو گئی اور لوگ محمد کی جان کے دشمن بن گئے۔ عرب کا دستور تھا کہ ”خون کا بدلہ خون“ سے لیتے تھے۔ کسی قبیلے کے ایک شخص کو کوئی دوسرا قبیلے کا شخص قتل کر دیتا تھا تو ان قبائل میں ہمیشہ کے لیے مخالفت ہو جاتی تھی۔ دونوں قبائل ایک دوسرا کی جان کے دشمن بن جاتے تھے مگر محمد کے پاس بچاؤ کا ایک طریقہ تھا۔ وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اس کا بچا اس کی حمایت میں تھا اور دوسرا خدیجہ تھی جس کا لحاظ چھوٹے بڑے سب کرتے تھے۔ محمد نے مصیبت سہی، دکھ برداشت کیا لیکن اس بیوی کی برکت سے اس کی جان پر آنچ نہ آئی۔ جب محمد 50 برس کا ہوا تو خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور بچا بھی چل لبے۔ اب محمد یتیم ہو گئے اور لاچار ہو کر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔



قارئین! اس سے اندازہ لگا لیں کہ خدیجہ کی موجودگی یا ان کا وجود محمد کے لیے کتنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی موت کے بعد محمد کے مکان میں بہت بیویاں تھیں اور ایک دوسرے سے خوبصورت تھیں۔ تمام قسم کا آرام میسر تھا، حکومت تھی اور اختیار تھا؛ تو بھی خدیجہ کی یاد محمد کے دل نہ بھولتی تھی۔ خدیجہ نے 25 برس کی عمر میں محمد کو بچایا اور جب تک وہ محمد کی بیوی بن کر زندہ رہی۔ محمد کو کبھی بھی دوسرا شادی کا خیال نہیں آیا۔ آریہ شاستر میں خانہ داری کی میعاد 25 برس مقرر ہے۔ یہ وقت محمد نے بڑی پاکیزگی سے نھایا اس لیے اسے آریہ گرہست کہہ سکتے ہیں۔

اگر محمد نے خدیجہ سے شادی نہ کی ہوتی، بلکہ اس کا لڑکا بننا منظور کر لیتا تو یہ رسم آریہ دھرم شاستر کے مطابق ہوتی۔ ایک مسلمان مولانا صاحب سے بات چیت کرتے وقت ہم نے یہی کہا تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے۔ ”ہیں!“ مائی بھی بنائی جا سکتی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں! ہندوستان میں یہ دستور ہے کہ کسی بزرگ عورت کو مائی کہہ کر اس طرح پترودت فرض ادا کرنا ہے اس لیے ہم اسے خدیجہ کہیں گے۔ لیکن وہ عقل میں، عمر میں تجربے میں نامی خدیجہ ہی ہے۔

بیٹی عائش

خدیجہ کا انتقال ہوئے ابھی تین ماہ بھی نہیں گذرے تھے کہ محمد نے محسوس کیا کہ دنیا میں بیوی جیسی پیاری چیز اور کوئی نہیں ہے۔ مصیبت بڑھتی ہی جا رہی تھی،



گھر میں کوئی ڈھارس بندھانے والا نہیں تھا، بس دوسرا بیوی کی تلاش کرنے لگے۔ 'مائی سودہ' سکران کی عورت تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اس جرم کی سخت سزا بھی پائی تھی۔ عربوں سے تنگ آکر انہیں اپنے ملک کو خیر باد کہنا پڑا جس کا نام "مالوف" تھا اور غیر ملک میں رہ کر گذار کرتے تھے۔ جب محمد نے کفار سے صلح کر لی اور ان کی مورتیوں کی اہمیت کو مان لیا، اگرچہ بعد میں پھر اسے صلح سے پریشانی ہوئی اور اس نے پہلے الہام کو "شیطانی وحی" کہہ کر اسے منسون کر دیا، تو دوسرے ملک گئے ہوئے افراد کے ساتھ سکران اور سودا بھی واپس آگئے۔ یہاں آکر سکران کا انتقال ہو گیا اور سودہ بیوہ ہو گئی، ان کی وفاداری کا ثبوت اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ملک بدری کی تکالیف کو اسلام کے لیے برداشت کیا۔ ادھر اپنے شوہر کی وفادار اور ادھر اپنے مذہب پر جان دینے والی۔

نوت:

اس قسم کی اچھی بیوی ملتا محمد کے لیے مشکل کام تھا۔ رحمتِ پیغمبری کی وجہ سے اس سے اپنی شادی کر لی۔ بوڑھے کی بیوہ عورت سے شادی کچھ بے جانہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیارو خلوص کا حق ادا کر سکتے تھے۔ خدیجہ کی جگہ آخر کون لے سکتا تھا؟ وہ بھی ایک امید تھی، جو پوری ہوئی اور گھر سونانہ رہا۔

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ گرہست آشram کے قواعد کے مطابق محمد 25 برس تک ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے اور وہ بھی دو شوہروں کی بیوہ، جو شادی کے



وقت 40 برس کی تھی اور 65 برس میں ان کا انتقال ہوا۔ اس بڑھیا سے جوان نے خوب نبھائی اور یہ بات محمد کی پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ صنف نازک سے پیار محمد کی فطرت میں تھا۔ یہ دوسرے مردوں کو نیکی کا مشورہ دیتا ہے، مصیبت میں مجبور بنادیتا ہے، آفت میں صبر کو بڑھاتا ہے، سینے کو ابھارتا ہے؟ اور روح کا "سلکتا" کرتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی، بہت سے افراد ہیں جو عورت کے حسن کی رنگیں تصویر کھینچتے ہیں اور پوچا کی دیوی بنادیتے ہیں۔ پاکیزگی کی مورتیاں بنانے کا تصور کی فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ عالم تخلیل کا عشق ان کے دل و دماغ پر عفت و عصمت کا راج بنائے رکھتا ہے۔

محمد شاعرانہ طبیعت کے مالک تھے مگر خدیجہ کے لیے یہ کہنا کہ "بڑھاپے کی شادی نے عالم موجودہ جوانی میں عورت کے شباب کی بہار کا لطف نہ اٹھانے دیا" یہ قوتِ تصور کا ایک اور تازیانہ (سخت) ہوا، دنیا کی عورتیں دماغ سے اتر گئیں۔ بہشت کی حوروں کے خیالات آنے لگے۔ بعد جب محمد کی متعدد شادیاں ہو گئیں، تب اس کا دل کثرت ازدواج سے کھٹا ہو گیا، چنانچہ بعد کے الہام میں حوروں کی خوبصورتی میں وہ منظر زیب نظر نہیں ہوئے، جو خدیجہ کے زمانے میں رہ رہ کر قرآن کی آیتوں میں جلوہ گر ہوتے رہتے تھے۔ سورت بیانیہ میں مذکور ہوتے ہیں، چنانچہ اظہار شدہ سورتوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کنواری عورتیں، لڑکیاں، گوری رنگت کی، بڑی آنکھوں اور ابھرے ہوئے سینے والی۔ سچ عورت کی خوبی کنوراپن میں ہے اور محمد نے کنواری عورت سے شادی کی۔ وہ

عائشہ تھی اور عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی۔ ابو بکر اور محمد بچپن سے دوست تھے۔ اس کی اور محمد کی عمر تقریباً ایک جتنی تھی۔ صرف دو سال کا فرق کا تھا۔ محمد، ابو بکر سے دو سال بڑا تھا۔ ابو بکر بہت جلد، بغیر کسی حیلے بہانے کے محمد پر ایمان لا یا تھا اور عائشہ اس کی لخت جگر تھی۔ عائشہ کی عمر اس وقت کوئی 6-7 برس تھی۔

(معراج نبوت صفحہ 28)

محمد نے اس کم عمر لڑکی پر جو عمر میں اسکی پوتی کے برابر تھی، اپنی نسبت کیوں ٹھہرائی؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابو بکر کو رشتہ دار بنانا تھا۔ پہلے تو یہ کہ جب ابو بکر محمد کے دین پر ایمان لے آیا اور اسے خود کار رسول کامان لیا۔ آخر کار اس کے حکم کو خدا کا حکم مان لیا تو اس طرح کسی بھی تعلق کی ضرورت ہی نہیں رہی لیکن مان لیجیے اگر یہ ایمان کار شستہ کمزور لگ رہا تھا تو اس کی مضبوطی کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ محمد، ابو بکر کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنالیتا، اس کی شادی اپنے ہاتھ سے کرتا، اس کو جہیز دیتا اور اس کا باپ بن جاتا لیکن عرب والے اس مصنوعی اور حقیقی رشتہوں سے زیادہ پائیدار اور بہترین رشتہ داری سے آشنا تھے۔

سید امیر علی لکھتے ہیں کہ عرب میں کوئی عورت بیوی کے سوا کسی اور رشتے سے کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ محمد اپنی سیاسی ضروریات سے مجبور تھا کہ مسلسل شادیاں کرے۔ آہ! بیمارے بھارت، پاکیزگی کے تارے بھارت! قدیم آریہ کی قدیم تہذیب کے بھارت!!! درگاہ اس اور نگ زیب کی پوتی صفیہ النساء کو اپنی بیٹی بتاتا ہے اور شیواجی گولیوادی کی امیر شہزادی کو جو مال غنیمت کے ساتھ

اس کے ساتھ تھی، اسے شیوا جی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔

لیکن ذرا ادھر بھی غور کیجئے عائشہ نازک اور ہلکے بدن کی تھی اس لیے پاکی اٹھانے میں وزن کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ پاکی کے اندر عائشہ ہے یا نہیں؟ عائشہ اب لاچار ہو کر وہیں بیٹھی رہی کہ اب کوئی لینے آتے ہیں، اب کوئی لینے آتے ہیں۔ آخر کار اسی انتظار میں صبح ہو گئی اور کوئی بھی نہیں آیا۔ اتفاق سے صفوان اپنا اونٹ لیے ادھر سے ظاہر ہوا اور آتے ہی اس نے عائشہ کو پہچان لیا اور بغیر بات چیت کیے عائشہ کے سامنے اونٹ بٹھا دیا، عائشہ بھی اس پر اچھل کر سوار ہو گئی۔ آخر کار ایک رات اکیلے میں گزارنے کے بعد پھر اپنے پیارے محمد سے جاملی۔

بھلا اس حالت میں کون کس کی زبان کو قابو کرتا؟ لوگ طرح طرح کے گندے بہتان لگانے لگے، آہستہ آہستہ محمد بھی عائشہ سے ناراض ہونے لگے۔ اس حالت میں بیچاری عائشہ اور کوئی حل نہ دیکھ کر آخر کار اپنے والدین کے گھر چل گئیں۔ عائشہ کی والدہ اس کا دل بہلاتی رہی مگر عائشہ کے دل سے غم کی گرہ ہی نہ کھلتی اور غم دور ہی نہ ہوتا۔

Jurat-e-Tehqiq

اس معاملے کی وجہ سے محمد کے دوستوں اور دشمنوں میں طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ محمد کے نام پر داغ لگ گیا، اس کے رعب میں بھی فرق آ گیا۔ آخر میں علی اور عثمان سے رائے لی۔ علی نے کہا کہ عائشہ کی خادمہ سے اس معاملے کی صفائی لی جائے۔ مشورہ نیک تھا لیکن علی کے لیے یہ بات بڑی بری ثابت ہوئی۔ عائشہ اس گستاخی کو مرتبے دم تک نہ بھولی کہ علی نے جو خود محمد کا



داماد ہے، اس کی عزت پر شک کیا۔ اب علی سے عائشہ کے تعلقات خراب ہو گئے۔ محمد کی بیٹی فاطمہ، مائی خدیجہ کی پیاری نشانی فاطمہ، جن کی علی سے شادی ہوئی تھی، ادھر فاطمہ کا شوہر ادھر اپنا داماد علی ہے اور ادھر چینی بیوی عائشہ ہے۔ محمد کدھر جائے اور کیا کرے؟ آخر کار گھر میں گھریلو جھگڑے کی شروعات ہوئی۔ اس گھریلو جھگڑے نے محمد کی موت کے بعد اسلام کی تاریخ کو خونریزی کی تاریخ بنادیا۔ خلافت کے لیے اس قدر خون ریزی نہ ہوتی، اگر علی اور عائشہ کا دل صاف ہوتا، ہاں اگر عائشہ کی علی سے ناراضگی نہ ہوتی تو۔

بہت شادیاں کرنے والوں کیکھو، جب محمد کی زندگی بھی خطرے میں ہے، اگر اس عظمت کے لوگ بھی اپنی غلطیوں سے اور ان برے کاموں سے نہیں بچ سکے تو تم کون ہو؟ اپنے کرتوقوں کی کڑوے پھلوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ دشتر تھے کا گھر بر باد ہو گیا، محمد کا دین بر باد ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے ہو کر نوجوان لڑکیوں سے شادیاں کیں۔

محمد عائشہ کے کمرے میں گیا اور اس کے والدین کے سامنے کہا کہ پوری گذری ہوئی کہانی کو بیان کرنے کی درخواست کی، تب محمد کے سامنے عائشہ کو اس کے والدین نے کہا؛ ”اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ بخشنسے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اور اگر تم بے گناہ ہو تو تم اپنی بے گناہی کا انتظار کرو۔“ عائشہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور آخر میں کہنے لگی؛ ”صبر ہی میرا جواب ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے، میں اگر اپنے آپ کو بے گناہ کہوں تو کوئی نہیں مانے گا، توبہ

کروں بھی تو کس گناہ میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔“

محمد، عائشہ کے چال چلن سے واقف تھا اور دل سے اس کا قائل بھی تھا لیکن لوگوں کو بھی تو قائل کرنا تھا۔ آخر کار اپنے آپ کو الہام کی صورت میں ڈال لیا، اپنا منہ کپڑے سے ڈھک دیا اور کچھ دیر بظاہر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتا ہوا اٹھا اور کہا، ”عائشہ! خوشی مناؤ۔ اللہ نے تمہاری بے گناہی کی گواہی دی ہے۔“

عائشہ کو کھویا ہوا وقار پھر سے مل گیا۔ لیکن الزام لگانے والوں پر شامت آگئی، الہام پر الہام آنے لگے، الزام لگانے والوں پر طرح طرح کی بوچھاڑ ہونے لگے آخر کار ان کے لیے سزا مقرر ہوئی کہ انہیں 8-8 کوڑے لگائے جائیں، مردوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت پر بھی یہ کوڑے بر سائے گئے۔

”سورت النور-4 (قرآن)“ میں رسول اور رسول کے خدا کا غم و غصہ لکھا ہوا ہے۔ بد زبان لوگوں کی زبانیں ان کے منہ میں ڈال دی گئیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ حرم کی فہماں کی جائے کیوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بھتی ہے۔ وہ خدمت بھی اللہ میاں نے قبول کی اور تب سورۃ احزاب اتری کہ:

”اے پیغمبر کی بیویو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنے قول سے نہ مکر جاؤ تاکہ وہ لائج نہ کرے جس کے دل میں مرض ہے، اور بات معقول کہو، اپنے اپنے گھروں میں رکی رہو اور سنگھارنہ دکھاؤ جیسے جہالت کے زمانے کی عورتیں کرتی تھی۔“



آخر محمد کو اپنی بیویوں کو خود تاکید کرنا اور تنبیہ کرنا بقیہ زوجیات ولوازمات کے خلاف تھا۔ اللہ میاں عورت اور مرد دونوں کا بزرگ ہے، اس کو درمیان میں ڈالا اور جو چاہا الہام کے روپ میں اس سے کھلوایا۔ اس طرح عائشہ اور محمد میں پھر سے اتحاد ہو گیا اور عائشہ کا گھر اجڑنے سے بچ گیا لیکن اس کے بعد پھر کبھی کسی جنگ میں عائشہ کو نہیں لے جایا گیا۔

اسکے بعد عائشہ کے درشن آخری درشن ہیں۔ محمد نے اپنے آخری مرض میں جو مرض الموت ثابت ہوا، اپنی بیویوں سے منظور کرالیا تھا کہ اب وہ عائشہ کے گھر میں ہی رہا کریں گے اور اسی مکان میں اکثر آئیں اتر اکرتی تھیں۔ وہی کھٹیا تھی، وہی بستر تھا اور وہی لحاف تھا۔ یہ مکان محمد کو سب مکانوں سے زیادہ عزیز تھا۔ بیماری کے دوران محمد قبرستان گیا اور اپنے موت کا یقین کر کے ہی گھر لوٹا۔ عائشہ بھی اتفاق سے سر درد میں مبتلا تھی اور وہ کراہ کراہ کر کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ ہائے میرا سر۔ محمد کہنے لگے عائشہ! یہ الفاظ تو مجھے کہنے چاہئیں تھے۔ عائشہ سنتے ہی خاموش ہو گئی۔ محمد نے مذاق میں کہا۔ عائشہ کیا تم پسند نہیں کرو گی کہ تمہاری موت میرے جیتے جی ہو، جس سے میں اپنے ہاتھوں سے تم کو دفن کروں اور تمہاری قبر پر دعا کرو؟ عائشہ نے ناک بھوؤں چڑھا لی اور جواب دیا کہ یہ کسی اور کو سناو، میں سمجھ گئی ہوں، میرے گھر کو مجھ سے خالی کروانے اور کسی (مجھ سے بھی) خوبصورت عورت کو بسانے کی آرزو آپ کے دل میں ہے۔ محمد کو جواب دینے کیلئے فرصت کہاں تھی؟ نہ ہی اتنی طاقت تھی کہ جواب دے سکے،



آخر کار پھیکی مسکراہٹ میں ہی بات کو ٹال دیا۔ (حیات محمدی، میور صاحب)

قارئین سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک نوجوان بیوی کو اپنے پیچھے چھوڑنے کا خیال محمد کے لیے کس قدر پریشانی کا سبب تھا؟ لیکن ہائے! یہ منظر، حسرت ناک منظر، عبرت ناک منظر! مسجد کا آنگن ہے۔ میں سال کی بیوی جو اپنے باستھ سال کے شوہر کا سر اپنے گھٹنے پر لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ محمد اس کا چبایا ہوا مساوک منہ میں دیتے ہیں اور اسی لمحہ اپنے جسم سے باہر ہو جاتے ہیں (تاریخ زیب اللہ، صفحہ 166، مدارج الفتوح) اس کے بعد عائشہ سے ابو بکر کہتا ہے کہ 20 سال کی بیوہ عائشہ مجھے تجوہ پر رحم آتا ہے، تیری جوانی پر رحم آتا ہے، تیری امنگوں پر، تیری حسرتوں پر، تیرے حسن پر اور تیری صورت پر رحم آتا ہے، میری آنکھوں میں وہ آنسو ہیں جو کسی والد کی آنکھوں سے اپنی بیوہ بیٹی کو دیکھ کر بے اختیار نکل پڑے۔ مگر کیا کروں؟ میں تجوہ اپنی لڑکی کہہ کر سسکتا ہوں، جب کہ محمد کے لیے میرا دل کچھ نہیں کہتا۔

Jurat-e-Tehqiq

سداسہ گنیں

ابو بکر حضرت محمد صاحب کا دایاں ہاتھ تھا اور عمر بایاں۔ وہ اتنی آسانی سے مسلمان نہیں ہوا تھا جیسے ابو بکر، مگر جب ہواتوپورے اعتماد کے ساتھ ہوا۔ اب وہ اپنے مذہب کے لیے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ابو بکر دلیر تھا، عظیم ند تھا



اور اس کے برخلاف عمر جو شیلا تھا۔ وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا تھا۔ اس وقت اسے اپنے قابو میں کر لینا آسان نہیں ہوتا تھا۔ یہی مزاج عمر سے ان کی بیٹی حفصہ نے پایا تھا۔ وہ بھی کسی کے روکے نہ رکتی تھی، اس کی شادی خنسی سے ہوئی تھی جو غزوہ بدر میں مارا گیا۔ 6-7 مہینے تک وہ بیوہ رہی اور کوئی بھی مسلمان اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر عمر نے پہلے ابو بکر سے نکاح کرنے کو کہا لیکن اس کے انکار کرنے پر پھر عثمان سے نکاح کرنے کے لیے درخواست کی۔ لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا، کیوں کہ حفصہ کو سنبھالنا کوئی مذاق یا کھیل نہیں تھا۔ اس پر عمر بہت غصہ ہوا اور آخر میں محمد کے پاس حفصہ کے نکاح کی تجویز لے کر گیا۔ محمد نے اپنی مہربانی سے اسے اپنی بیوی بنانا منظور کر لیا۔ اس طرح محمد کا جو رشتہ ابو بکر سے تھا، وہی اب عمر سے ہو گیا۔ دونوں وفاداری کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور بیٹیوں کے طفیل محمد کے ماتحت بن گئے۔

ایسے ہی غزوہ بدر کے ایک اور شہید عبیدہ کی بیوی زینب تھی، عبیدہ رشتے میں محمد کا بھائی تھا، اس کی بیوہ سے بھی محمد نے شادی کر لی۔ زینب بڑی سختی طبیعت کی مالک تھی، اس لیے اس کا نام ام المساکین پڑ گیا۔

عبدیہ ابتدائی مسلمانوں میں تھا۔ وہ جوش کی ہجرت میں عرب سے نکال دیا گیا تھا۔ جب محمد نے مدینہ میں ڈیرہ ڈال دیا تو وہ واپس آگیا، جنگ احمد میں وہ زخمی ہو گیا تھا۔ مگر بعد میں وہ اچھا ہو گیا، جب بنی سعد پر اسلام نے چڑھائی کی تو یہ اس کا سپہ سالار بنایا گیا تھا، وہاں وہ پچھلے زخموں کی کمزوری کے سبب پھر بیمار پڑ گیا اور

اس کی موت ہو گئی۔ محمد کو اپنے رشتے داروں سے ہمدردی تھی، وہ اس کی بیوہ ”ہند“ کے پاس جایا کرتا تھا، ہند بھی بوڑھی مگر کافی خوب صورت تھی۔ محمد نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اس نے بڑھاپے کا بہانہ کیا، تو پیغمبر نے فرمایا میں بھی تو بوڑھا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ بال بنچے ہیں۔ محمد ان کا بھی وارث بنانا اور بڑھیا کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ مدینہ مسجد کے ساتھ اس وقت تک پانچ حجرے پہلے ہی بن چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک میں محمد کی بیویاں رہتی تھیں۔ محمد باری باری، ایک ایک رات، ایک ایک دن، ایک ایک بیوی کے پاس گزار دیتا تھا۔ آخری حجرہ حارت کا تھا، جب محمد کے گھر نئی بیوی آتی تھی تو اسے حارت کے حجرے میں ٹھہرایا جاتا تھا اور حارت کے لیے دوسرا نیا حجرہ تیار کرایا جاتا تھا۔ وہ بیچارہ خاموشی سے علیحدہ رہنے کا انتظام کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ محمد کو خود شرم آئی اور کہنے لگا کہ آخر حارت بھی کیا کہتا ہو گا۔

سید امیر علی فرماتے ہیں کہ یہ سب بیوائیں جنہیں محمد کی بیوی ہونے کا گھمنڈ تھا، یہ سمجھی بے بس تھیں، جن کے خاوند اسلام کی خدمت کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے۔ محمد کا یہ فرض تھا کہ ان کے گزارے کا انتظام کرتا، وہ اس کا اہم فرض تھا لیکن اس کا اپنا گزارا پہلے ہی تنگی سے چل رہا تھا، اس پر اس نے اپنی روزی پر اور بھی بوجھ لے لیا اور اپنے اخراجات کی ذمہ داری مزید بڑھالی، اور آمدنی کی صورت وہی رہی۔ ملک ملک کاروانج ہے۔ ممکن ہے سید امیر علی کا بیان درست ہو۔ عرب میں رسالت محمد کے زمانے میں کوئی عورت کسی مرد کے پاس

صرف بیوی بن کر ہی رہ سکتی ہو، ورنہ ہندوستان کی رسم تو یہ ہے کہ ایسے دھرماتما لوگ پر ائی عورتوں کو دھرم بہن (منہ بولی بہن) بنالیتے ہیں، جس سے ان کا گذارا بھی چل جاتا ہے اور دین بھی برباد نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ سارے مسلمانوں میں کوئی اور بیواؤں کی پرورش کرنے والا نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ کوئی کنوار ایار نڈواں کو اپنی بیوی کی شکل میں لے جاسکتا ہو اور یہ مہربانی کا سہرا صرف محمد کے سر بندھا ہو، ہمارے ناقص خیال میں اگر محمد انہیں بہن بنالیتا تو بھی کام چل جاتا اور اگر شادی ضروری تھی تو کسی کنوارے سے کرادیتا۔ اپنا اپنا مذہب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محمد کو یہی طریقہ پسند آیا ہو کہ بیویوں سے اپنا گھر بھر لے، 60 سال کا بوڑھا پانچ پانچ بیویاں۔ خیر بیویوں سے چھل پہل تور ہی ہی ہو گی، موج سے رات دن کلتے ہوں گے، صنف نازک کے ساتھ بوڑھے کا تعلق درست ہے۔

Jurat-e-Tehqiq

بہو

ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ زید نام کا ایک لڑکا خدیجہ کا عیسائی غلام تھا، اس نے محمد کی مذہبی اور قلبی مشکلیں دور کی تھیں، اس لیے محمد کو اس سے خاص پیار تھا، چونکہ خدیجہ نے وہ غلام اسے ہی دے ڈالا تھا اور محمد نے اسے اپنا متبّنی (بیٹا) بنالیا تھا۔ زید بھی محمد سے کافی پیار کرتا تھا، ایک بار جب اس کا باپ اسے لینے آیا تو اس نے



جانے سے صاف انکار کر دیا، کیوں کہ محمد رسول بھی اور باپ بھی (دونوں) تھے، اس لیے وہ وہاں اکیلے اپنے والد (باپ) کے پاس جا کر کیا کرتا؟ اس کی پہلی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی جس کی عمر زید سے بھی دگنی تھی، لیکن اسے خود پسند کرنے والے باپ (محمد) کے حکم سے لاچار ہو کر نکاح کرنا پڑا۔ اس عورت سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام اسماء تھا۔ زید کی دوسری شادی زینب سے ہوئی، زینب قریشی خاندان سے تھی اور محمد کی پھر پھیری بہن تھی۔ ایک دن محمد، زید کی غیر حاضری میں اس کے گھر جا پہنچا۔ پردے کی آڑ میں زینب بیٹھی تھی، اس نے رسول (جو اس کا سسر بھی تھا) کی آواز سنی تو جلدی سے انہیں اندر لانے کا اہتمام کرنے لگی۔ محمد کی نگاہ اس کے خوب صورت جسم پر پڑی، بس پھر کیا تھا، دل پر ایک دم سے بجلی سے گر پڑی اور منہ سے نکلا آہ۔ سبحان اللہ۔ تو کیسی کیسی خوب صورتی کی کارگیری کرنے والا ہے۔ زینب نے یہ الفاظ سن لیے اور دل ہی دل میں پیغمبر کے دل پر قبضہ پاجانے کی خوشی منانے لگی۔ زید سے شاید اس کی بنتی نہیں تھی، وہ لا کہ محمد کا وارث ہو، بھی آخر تھا تو غلام ہی۔

جب زید گھر آیا تو اس سے زینب نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ بس پھر کیا تھا، اسے آپ محمد کی شادی کی بات چیت (عقیدت) سمجھیے یا شاید اس کا دل زینب سے پہلے ہی لکھا ہو گیا ہو، چنانچہ وہ دوڑا دوڑا محمد کے پاس گیا اور اپنی بیوی کو جس پر محمد کا دل آچکا تھا، طلاق دینے پر راضی ہو گیا۔ محمد نے روک کر کہا، آپس میں خوشی سے گزر بس رکرو، لیکن زید ایسی بیوی کا شوہر بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، جو



دوسرے کو دل دے چکی ہو۔ آخر کار اس نے زینب کو طلاق دے ہی دے اور زینب محمد کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے بھی اپنی خدمت میں لے بجھی۔ محمد کو یہ پس و پیش تھی کہ نکاح سے بدنامی ہو گی، آخر وحی نے سب کام طے کر دیا اور سورہ اتری:

”خدا نے انسان کو دو دل نہیں دیے، نہ تمہاری گود کے لیے بیٹے اپنے بنوائے ہیں۔ جو تم کہتے ہو، یہ تمہارے منہ سے نکلا ہے۔ مگر اللہ اصل بات جانتا ہے، وہ راستہ ٹھیک دکھاتا ہے۔ تمہارے دارثوں کو چاہتے ہی کہ وہ اپنے باپ کے نام سے مشہور ہوں اور جب تو نے ایک ایسے بندے سے جس پر اللہ کا بھی فضل ہے، ترا بھی فضل ہے، کہا کہ تو اپنی بیوی اپنے پاس رکھ اور اللہ کا خوف کر اور تو اپنے سینے میں چھپایا جو اللہ کی مرضی تھی کہ ظاہر ہو اور تو انسان سے ڈر، حالانکہ اللہ زیادہ قابل ہے، ڈرمت، جب زید نے طلاق کی رسم پوری کر دی تو ہم نے اس سے (محمد سے) بیاہ دیا، تاکہ مومنوں کو اس کے بعد اپنے متبنوں (منہ بولے بیٹھوں) کی بیویوں سے شادی کرنا ظلم نہ ہو بشرطیکہ طلاق کی رسم پوری ہو چکی ہو اور اللہ کا حکم ضرور پورا ہو گا۔“ (سورۃ الاحزاب: رکوع 5)

محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم المرسلین ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

یہ الفاظ ہم نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ محمد کے دل کا پتہ قارئین لگا سکیں، زینب کی زیارت کے بعد محمد نے جھوٹ موت تامل ظاہر کیا، ورنہ دل میں عشق



کی آگ بھڑک چکی تھی اور جس میں ہر لمحہ بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، وحی آتی گئی

اور محمد نے اس کے بعد زینب کے پاس پیغام بھیجا؛

”اللہ نے تجھے مجھ سے ملا دیا ہے۔ اس لیے اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔“

جهاں اللہ دل ملا دے، وہاں نکاح پڑھانے والے مولویوں اور قاضیوں کا درمیان میں نہ پڑنامہ اق نہیں تو اور کیا ہے؟ سب لوگوں کو خوش کرنا ضروری تھا، اس لیے کہہ دیا:

”اللہ نے نکاح پڑھا ہے اور جبریل اس کا گواہ ہے۔ اور ان دو شرطوں کے علاوہ نکاح کے لیے اور شرط کیا ہے۔“

رنگیلے رسول کا یہ رنگ محاورہ عجیب ہے؛ بیٹا بیٹا نہ رہا، بہو بہونہ رہی۔

اب قارئین سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں محمد کو کسی عورت کو مان یا بیٹی بنانے میں جھجک تھی؟ جب منہ بولے بیٹوں متبنوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا جو حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی بیویاں تک محمد کے لیے حلال ہو سکتی ہیں، تو منہ بولی بیٹیاں اور بہنیں کیوں کرنج سکتی ہیں؟

اس وقت کے مسلمان تو خاموش نہیں ہیں، تاریخ کا فتویٰ یہی ہے کہ محمد نے بے جا کیا۔ اس کی وحی بے بجا۔ پیغمبر ملزم۔ اس کا الہام ملزم۔ اللہ میاں اور اس کا جبریل ملزم۔

ایسا نہیں ہے کہ محمد اپنے گناہ نہ جانتا تھا بلکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کی گندی نظر زینب پر نہ پڑتی یا زینب نے ہی اپنے جسم کو پوری طرح چھاپالیا ہوتا تو دن



ہاڑے یہ اندھیرنہ ہوتا جو ہوا۔ چنانچہ اب توجو ہو گیا، سو ہو گیا، اب آگے دیکھو: پہلے تو اسے (محمد کو) اپنے ہی حرم کا خیال آیا۔ لوگ آزادی سے اس کے گھر آتے جاتے تھے۔ اس کی بیویوں سے بات چیت ہوتی تھی۔ ممکن ہے کسی وقت یہی معاملہ کسی مسلمان پر سے گذرے جیسا کہ پیغمبر پر بیت چکا ہے، اور ممکن ہے کہ محمد کی کوئی بیوی ایسی ہی ہونہار نکل پڑے جیسا کہ زید کی بیوی ثابت ہو چکی ہے۔ اس لیے اس کا انتظام بھی آئندہ کے لیے ہو جانا چاہیے۔ ایسا سوچ کر حضرت نے دوراندیشی کے آئینے میں جہان کا اور دجی کی زنجیر ہلانی اور کام پورا کیا۔ سورہ اتاری گئی، دیکھئے:

”اے مومنو! رسول کے گھر میں نہ جاؤ، جب تمھیں کچھ پوچھنا ہو تو پردے کی آڑ سے پوچھ لو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کیلئے بہتر ہو گا۔ یہ مناسب نہیں کہ تم رسول کے دل کو دکھاؤ اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے شادی کرو، رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔“ (سورۃ الاحزاب: رکوع 5)
اس الہام کا آخری جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ میں خود انہیں اپنی مائیں کہتا ہوں۔
آگے چل کر پھر کہنے ہیں:

”اے رسول! اپنی بیویوں اور اڑکیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ ڈال لیا کریں۔ پھر اپنی آنکھوں پر قابو رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں اور اپنی چھاتی پر پرداہ رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں۔ اور تو اعد بنائیں کہ پڑو سنوں کے گھر میں کسی طرح داخل نہ ہوں جس



سے ان کے کام میں رکاوٹ پڑے۔” (سورہ الاحزاب: 6)

اگر یہ قاعدے قانون زینب کے گھر جانے سے پہلے بنائے جاتے تو زینب کا گھر نجیج جاتا اور محمد کے نام پر بٹہ بھی نہ لگتا۔ مگر کیا پردے نے مومنوں کو ان کی کرتوقتوں سے بچالیا؟ برے کام کے چال چلن کی حقیقی دوا، دل کا صاف ہونا ہے، اگر محمد اس پر زیادہ زور دیتا تو شاید اپنے دین اور دین کے ماننے والوں کو زیادہ بے قصور چھوڑ جاتا۔ میور صاحب نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو حج کے لیے مکہ گئی تھی اور عربوں کے سلوک کا آنکھوں دیکھا نقشہ اس طرح کھینچتی ہے:

”عورتیں اکثر دس دس شادیاں کر لیتی ہیں۔ جنہوں نے دو دخواند کیے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، جو اپنے شوہر کو بوڑھا ہوتے دیکھتی ہیں یادوں سے اس کی آنکھ لڑ جاتی ہے تو وہ مکہ شریف کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور معاملہ طے کر کے اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں اور کسی دوسرے سے جو جوان اور حسین ہو، اس کے ساتھ پیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہے پردے کی برکت۔“

Jurat-e-Tehqiq

حرم کا سنگھار

موجودہ جلد کا مضمون رسول کا دستور خاندانی ہے، اس لیے ہم نے کسی دوسرے مضمون کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا، لیکن اب جن عصمت مآب کو محمد حق زوجیت ادا کرنے لگے ہیں وہ یہودن ہے۔ محمد کے اصرار کے باوجود اس



نے انکار کر دیا۔ قارئین کے لیے اس کا سبب سمجھنا مشکل ہو گا، اگر انہیں محمد اور اور یہودیوں کے آپسی تعلقات کا تھوڑا سا بھی حال سنادیا جائے تو اچھا ہو گا، دیکھیے: ہجرت کے بعد محمد نے یہودیوں کے مذہب کی طرح طرح سے تعریف کی اور اپنے مذہب کی تحریانیت کا سرٹیفیکیٹ بھی انہی سے لیا اور بعد میں جب اس کے مددگاروں کی تعداد بڑھ گئی تو وہی یہودی محمد کی برائی کا سبب بنے جو کائنٹ کی طرح دل میں کھکلنے لگے۔ ایک دن آیا جب ان کا محاصرہ ہو جانا کامیاب ہوا، تب انہوں نے معافی مانگی تو فیصلہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ سینکڑوں یہودی ذرا سی دیر میں تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، جن میں ایک عورت کو بھی ان کے فیصلے پر قتل کر دیا گیا۔

مہربانی کا سلوک ایک خوب صورت عورت کے ساتھ ہوا، جس کا نام ریحانہ تھا، اسے پہلے ہی سے سب کے درمیان سے ہٹا دیا گیا تھا، کیوں کہ وہ سب سے زیادہ حسین تھی جو محمد کے لیے ریزرو (Reserve) تھی۔ محمد نے اس سے شادی کی درخواست کی لیکن اس نے نامنظور کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئی۔ آخر محمد نے اسے لوئڈی (Rkhil) بنالیا اور اسی حالت میں وہ کچھ دن تک جیتی رہی لیکن بہت سال نہیں، آخر کار وہ اپنی قوم اور اپنی کھوئی ہوئی آبرو کے غم میں گھل کر مر گئی۔

بُنِ مصطلق سے جنگ کرنے کا ذکر ہم عائشہ کے پیچھے رہ جانے اور تھتوں کا نشانہ بننے کے وقت کر چکے ہیں۔ اس مہم میں جو مال و اسباب کے ساتھ جو یہ نام

کی ایک یہودن اور آئی تھی، اس کی بولی لگائی گئی، محمد نے قیمت بڑھانے کی بجائے پہلی قیمت دے کر ہی اسے اپنی بیوی بنالیا۔ جوں ہی جویریہ محمد کے کمرے میں گئی، عائشہ نے اس کا حسن دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ عورت اب واپس نہیں جائے گی۔ یہ اندریشہ پیدا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک سوتاں اور بڑھنے کو ہے اور یہی ہوا۔

خیر بھی یہودیوں کی بستی تھی، جس پر محمد نے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا جس میں ان کا سردار کنانہ بھی مارا گیا، صرف اس کی بیوی ہاتھ آئی، محمد نے اس سے بھی شادی کا ارادہ کیا تو وہ راضی ہو گئی۔ اب مدینے واپس جانے کی تاب کے؟ وہیں پر مٹی کے ڈھیر بنانے کردست خوان بنائے گئے اور ان پر کھجوروں، مکھن، دہنی کی دعوت کی گئی۔ نئی دہن کو سنوارا گیا اور محمد اسے ایک کمرے میں لے گئے اور محمد کے قابل اعتماد لوگوں نے ان کے خیمے کے آس پاس پھرہ دیا کہ کہیں بے دین عورت اپنے شوہر کا انتقام نہ لے لے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس عورت کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ جب محمد نے اس زخم کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک دفعہ رات کو خواب میں اپنی گود میں گرتے ہوئے چاند کو دیکھا اور اس خواب کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کر دیا، شوہر کو شک ہو گیا اور کہنے لگا: ”حرام زادی، پیغمبر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔“ بس پھر کیا تھا، اس نے غصے میں آکر زور سے میری پیشانی پر ایک لوہے کی سنج دے ماری جس سے یہ زخم ہو گیا۔ قارئین! کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کے دل میں پہلے ہی سے محمد بسا ہو، اس کی نیک چلنی کے لیے کیا کہا جائے؟ محمد خیر سے مدینے واپس آیا تو وہاں پھر محمد نے ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ کو اپنی بیوی بنالیا۔

سنہ 626 میں محمد نے حج کیا۔ یہ محمد کا پہلا حج تھا، جس کی اجازت کعبے کے پچاریوں نے محمد کو دی تھی۔ اس موقع پر بھی محمد اپنی کرتوقتوں سے باز نہ آیا۔ میمونہ نام کی، اس کے پچھا عباس کی بیوہ وہاں موجود تھی جس کی عمر 26 سال تھی، وہ رشتے میں بھی محمد کی نزدیکی تھی، اس لیے اپنے چچا کے کہنے سننے پر محمد نے اسے بھی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ مدینہ کی مسجد میں جہاں پہلے نوجھرے تھے، اب دسوال بھی تیار ہو گیا۔

یہ تو محمد کی منکوحہ بیویاں تھیں، جن کو قرآن کی روح سے محمد نے دائیں ہاتھ سے حاصل کیا تھا، باقی جو لوندیاں تھیں وہ سب ان کے علاوہ تھیں۔

ماریہ

سنہ 628 میں محمد نے اپنا خط گورنر مقوس کے پاس بھیجا لیکن مقوس نے محمد کے پیغبری والے معاملے کو توٹاں دیا لیکن سیاسی رشتہ قائم کرنے پر ضرور راضی ہو گیا۔ اس نے محمد کو دلوندیاں بھیجنیں، ان میں سے ایک کا نام ماریہ تھا۔ (حدیث مسلم، تفسیر حسینی)

ماریہ کو محمد کی دوسری بیویوں کی طرح مسجد کے حجرے میں جگہ نہیں ملی، کیوں کہ وہ ایک لوندی تھی، اس کے لیے ایک الگ باغ تیار کیا گیا جہاں محمد کبھی کبھی جاتے تھے اور اس کے ساتھ وقت گذارا کرتے تھے۔

ماریہ کے بارے میں محمد پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ لوندیاں رکھنا قرآن

کی رو سے جائز ہے (سورۃ النساء: 3) محمد کے گھر میں لو نڈیاں تھیں، ان پر نہ محمد کی بیویوں نے اعتراض کیا اور نہ محمد کے صحابہ نے۔

ایک دفعہ کہیں سے تین لو نڈیاں آئیں تو محمد نے ایک ایک اپنے سروں ابو بکر اور عثمان کو اور اپنے داماد علی کو تحفتاً دے دیں۔ آج کی دنیا سے شرمناک کہے گی کہ اپنے داماد اور سرسروں کو ایسا مجلسی یارانہ بر تاؤ؟ شباباش محمد۔

ہندوستان میں سسر، باپ کے درجے کا ہوتا ہے اور داماد بیٹے کے مرتبے پر۔ اس طرح عزت دار بزرگوں اور عزیزوں کو لو نڈیاں دینا کوئی بھی شریف آدمی اچھا نہیں کہے گا لیکن اس زمانے میں عرب کے کچھ طور طریقے اور ان کی تہذیب یوں ہی تھی۔ فرشتے کی شہادت سے ایک چیز جائز کر دی تو کون ہے وہ کافر جو پیغمبر اسلام پر انگلی اٹھائے کے تو تم نے جائز کیا۔

غضب یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو بھی محمد کا یہ عمل کھٹکنے لگا ہے۔ سید امیر علی اس بات کو بغیر ڈکار لیے ہضم کر گئے اور مولانا شبلی اس کی صورت ہی بدلتی ہیں، ان کی نظر میں محمد کے گھر میں یہ بات ہوئی ہی نہیں، قرآن میں ایک سورہ ہے، دیکھئے:

”یار رسول! تو کیوں اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے وہ چیز اپنے اوپرنا جائز سمجھتا ہے جو اللہ نے تجھ پر جائز کی۔ اللہ نے تمہاری قسموں کو توڑنے کی منظوری دے دی ہے۔ رسول نے ایک راز اپنی بیوی کو بتایا تھا، اس نے دوسری بیوی سے اس راز



کے ایک حصے کا ذکر کیا اور دوسرا اپنے دل میں رکھا۔ اس پر اللہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تب انھوں نے جواب دیا کہ رسول نے۔ اس کے بعد اللہ نے جو عظیم ہے اور تمام صفات سے متصف ہے، کہا کہ اگر تم دونوں (بیویاں) توبہ کرو تو اچھا ورنہ رسول نے اگر تمہیں طلاق دے دی تو اس کا اللہ اسے تمہاری جگہ تم سے اچھی بیویاں دے گا جو اللہ کی خاطرداری کرنے والی ہوں گی اور ایمان لانے والی ہوں گی اور پاک رہنے والی اور بھروسہ رکھنے والی اور پہلے شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی جو کنواری ہیں۔” (سورۃ تحریم)

بھائیو، کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ یہ راز کون سا تھا جو ایک بیوی نے دوسری بیوی پر ظاہر کیا؟ محمد نے کون سی جائز چیز خود پر ناجائز کر لی؟ غریب بیویوں کو اللہ سے جھاڑ کیوں پلائی؟

حدیثوں میں آیا ہے (حدیث مسلم تفسیر حسینی) کہ ایک دن جب محمد کی حفصہ سے ملنے کی باری آئی تو حفصہ پہلے ہی چھٹی لے کر مائیکے چلی گئی اور اس کے جھرے میں محمد نے ماریہ سے گھر بسالیا، اتنے میں حفصہ لوٹ آئی۔ وہ محمد کا یہ منظر دیکھ کر جل بھن گئی کہ اس کی آرام گاہ ایک غیر شادی شدہ عورت سے بھری ہوئی ہے۔ حفصہ کے اس غصے کو محمد نے فوراً تاثر لیا اور کہا، اگر ماریہ کے اس حال کا ذکر تم کسی سے نہ کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے ماریہ کے ساتھ

کبھی صحبت نہ کروں گا اور میرے بعد خلافت کا حق تمہارے باپ کو حاصل ہو گا۔

قارئین! بات تھی، ٹل گئی لیکن حصہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے اس خبر کو پھیلا دیا۔ عائشہ کی قیادت میں بیویوں کی ایک کو نسل قائم ہوتی، سب نے محمد سے منہ پچیر لینے کا فیصلہ لیا۔ محمد پیغمبر اور اس پر مدینے کا اکلوتا بادشاہ۔ اس نے کہا کہ یہ بیویاں کس کھیت کی مولی ہیں جو مجھ سے اس بے رخی کا بر تاؤ کریں۔ اس نے فوراً وحی والے ہتھیار کا استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر ساری بیویوں کا بایکاٹ کر دیا اور مہینے بھر کے لیے ماریے کے یہاں ڈیرہ ڈال لیا اور ان بیویوں کے والدے کہا کہ لو بگاڑ لو، جو میرا بگاڑنا چاہو۔ اس پر بڑی پیچیدہ حالت ہو گئی، ادھر ابو بکر ناراض، عمر ناراض، عثمان ناراض کہ ایک لو نڈی کی خاطر ہماری بیویوں سے تعلق منقطع کر دیا۔ مہینے بھر کی جدائی کے بعد محمد کا دل بھی نرم پڑ گیا (جو حصہ کے تیز طر ار غصے سے اچھی طرح واقف تھا) اور کہنے لگا کہ اللہ نے سفارش کی ہے کہ حصہ کا قصور معاف اور اس کے ساتھ اس کی ساری بہنوں کا قصور معاف۔ خدا خدا کر کے رسول کے گھر امن ہوا، جھگڑا ختم ہوا۔ ماریے سے خصوصی محبت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے پیٹ سے پچ پیدا ہو گیا۔ محمد کی لڑکیاں تو تھیں لیکن لڑکے ہو کر مر گئے تھے، محمد کو وارث ملا، شاید کام کا بھی وارث، جاندار کا بھی وارث، اور بڑی بات تو یہ تھی کہ خاندان کی آن بان کا بھی وارث۔ لڑکا کون نہیں چاہتا؟ سید امیر علی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ محمد نے بعض شادیاں اس لیے بھی کی ہوں گی کہ اسے اولاد نرینہ پانے کی آرزو تھی، وہ آرزو بھی کسی



دوسری بیوی کو حاصل نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تو وہ بھی اس لونڈی (ماریہ) ہی کے حصے میں آئی۔ اس کے اس شیر خوار بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا جس کی پرورش کے لیے بکریوں کا ایک رویڑ تعینات کیا گیا۔

ایک دن محمد، ابراہیم کو عائشہ (اپنی دوسری بیوی) کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ دیکھ محمد کی نشانی ہے یا نہیں؟ خود خال میں، روپ رنگ میں ہو بھو محمد۔ عائشہ کو سوتن کے لڑکے سے نفرت تھی۔ اس نے کہا کہ اسے کسی اور کی برابری دو، نا حق اپنی صورت کی تو ہیں نہ کرو۔ محمد نے اس کے موٹا تازہ ہونے کا اشارہ کیا کہ دیکھ کیسا مضبوط لڑکا ہے۔ اس پر عائشہ بولی، کسی کی خوراک میں بکریوں کا رویڑ دے دو تو وہ بھی پھول جائے گا۔

ہم نے اس بات کا ذکر اس لیے کیا کہ بہت بیویوں والوں کو سبق ملے۔ باپ نے اولاد کی شکل دیکھ کر ٹھنڈک پائی، دل میں خوشی منائی اور نظر میں نور کی روشنی کا احساس کر رہا ہے اور ادھر بیوی ہے کہ سوت کی جلن میں جلی جاتی ہے۔ ابراہیم کی بد قسمتی ہی کہتے کہ وہ بھی تھوڑے دونوں زندہ رہ کر والدین کو چھوڑ کر چل بسا۔ محمد کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈا گئیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہوا؟ تب حضرت نے فرمایا اور پیغمبری شان سے فرمایا کہ آخر میں بھی تو انسان ہوں، یہودی آہ بھرنے سے منع کرتا ہوں، یہ کون کہتا ہے کہ جذبات سے دل کو خالی کر دو۔

”محمد مجھ قلم کار کو تم سے پیار ہے اور وہ اس لیے ہے کہ تو بھی تو آخر انسان ہے،

تجھے بھی اولاد کی آرزو ہے اور بیٹے کے مر جانے کا غم ہے، ہاں اگر قدرت کے قانون کے مطابق تو بھی عمل کرتا اور اس خالق کائنات کے اصولوں کونہ توڑتا تو وہ بھی تیری جھوٹی حفاظت کی موتیوں سے بھر دیتا۔“

ہم حیران ہیں کہ آخر اس قبطی لوندی کے واقعے پر لوگ انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ خود مسلمان اسے کالے ہاتھ کی طرح جیب میں چھپاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یا تو لوندی رکھنے کی رسم قرآن سے مٹا دیا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حفصہ کا غم و غصہ اور اس کے اوپر دیا گیا بیان بالکل جائز ہے۔ کیوں کہ محمد کی کالی کرتوتوں سے اس کی شان و زوجیت میں فرق آگیا تھا کہ ایک ادنیٰ سی لوندی اس کے مجرے میں قیام کرے؟ عائشہ کا غم و غصہ بھی جائز تھا کہ اس کی ایک بہن کی توہین ہوئی، اس کے حق زوجیت کی توہین ہوئی، یہی تو بس اس کا اپنا تھا۔ لیکن اس کا کون سا حق زوجیت مارا گیا۔ زینب جب بغیر شادی کے بھی جائز بیوی تھی تو ماریہ کیوں نہیں؟ اللہ نے اس کا بھی نکاح پڑھ دیا۔ جہاں دو دل مل گئے، وہیں اللہ ہی قاضی ہے اور جبریل گواہ ہے اس بات کا کہ ماریہ محمد کی بیوی ہے۔

بیویوں والا حضرت محمد

سبھی ہندو شری کرشن کو ”بانسری والا“ کہتے ہیں۔ بانسری ہی شری کرشن کی عظمت ہے۔ ورنداون کے جنگل، گایوں کے غلے، گوالوں کے لڑکے اور لڑکیاں بانسری لیے کھڑے ہیں اور جنگل کے چاروں دشائیں گونج رہی ہیں، ایک راگ



ہے کہ زمین و آسمان پر چھایا ہوا ہے کہ گوالے مست، گولنیں مست، گائیں مست، حتیٰ کہ جنگل کے پیڑ اور پتے تک مست ہیں۔ یہ کرشن کا بچپن ہے۔ جوانی آئی تو کنس کومارا، اور جر اندھ کومارا، وہاں بھی جنگ کے لیے صور اسی بانسری نے پھونکی تھی، لیکن جب شری کرشن جی بوڑھے ہوئے تو جوانی کی امنگوں کی جگہ بڑھاپنے لے لی۔ اب وہی بانسری، کلچر میں بگڑی کو بناتی ہے، بھٹکے ہوئے (ارجن) کو راستہ بتاتی ہے۔ کروشیتر کے میدان میں اور کون بول رہا تھا؟ یہی بانسری تو تھی، جس کے الفاظ خدائی الفاظ کھلائے جو بھگوت گیتا کی شکل میں موجود ہیں، اسی بھگوت گیتا کے معنی ہے، ”رحمانی نغمہ“۔ یہی آج کا کرشن ہے، زندہ کرشن۔ آنکھوں کے سامنے، کانوں کے پاس موجود کرشن، آہ!! جس کی عظمت کا ایک لفظ کہا اور کرشن کی ساری زندگی کا نقشہ سامنے آگیا، وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ہے ”بانسری والا“۔ آہ! کیا پیارا نام ہے۔

اب آپ گرو گوبند سنگھ جی کو ہی لے لیجیے جو ”کلنگی والا“ کھلاتا ہے۔ بادشاہ تو ان سے پہلے گرو بھی تھے لیکن کلنگی (تاج) سب سے پہلے گرو گوبند سنگھ جی نے ہی رکھی تھی۔ دوسرے خود مختار کہاں تھے؟ گرو نے با قاعدہ میدان مارے اور کسی کے قبضے میں نہ آیا، یہی گرو کا یگیہ تھا۔ یہی لڑائیاں تھیں۔ قربانی تھی اور یہی موت اور آزادی تھی۔ ”خود مختاری“؛ ایک لفظ میں یہ سارے واقعات شامل ہوئے ہیں جیسے فونو گراف کے ریکارڈ کے شعبہ میں گیت ”کلنگی والا“ کہا ہے، اور گرو گوبند سنگھ کا مطلب جدوجہد اور جنگ کا انقلابی متبادل وغیرہ سب کہہ دیا۔



رشی دیا نند کا نام پنجاب میں ”ویدوں والا“ پڑنے لگا ہے۔ رشی کا کام وید، رشی کا پیغام وید، رشی کی حیات، رشی کی وفات صرف وید کی تبلیغ کا وظیفہ تھی۔ ”ویدوں والا“ دلکش نام ہے، یہ نام لیا اور اس کے دل کو پالیا یعنی رشی کی روح کو سمجھ لیا۔

لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اپنے پیارے محمد کو ایسا کون سا نام دوں، جس میں محمد کی زندگی کی پوری تصویر آنکھوں میں اتر آئے۔ میں نے محمد کی سیرت شروع سے آخر تک پڑھی، بڑے ہی مزے لے لے کر پڑھی اور بڑی ہی محبت سے پڑھی، اعتماد سے پڑھی اور جاننا چاہا کہ آخر وہ ایسا کون ساتار ہے یعنی وہ ایسا کون سادھاگہ ہے جس میں محمد کی زندگی کو پروایا جاسکے؟ جس میں خیالات کے نقش بن جائیں اور قول و عمل جنتی جاتی تصویریں بن کر حاضر ہوں۔

محمد کی زندگی کا پہلا پر دہ اس وقت اٹھتا ہے جب اس نے مائی خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کی ٹھانی۔ اس سے پہلے کی کارروائی اس شادی کی م Hispan تیاری تھی، حضرت نے خدیجہ سے شادی کی اور محمد ”پیغمبر“ بن گئے۔

محمد کی پیغمبری کو سب سے پہلے کس نے ٹھوکی؟ خدیجہ نے۔ مکہ کی عداوت سے اس میں اس کی پیڑھ سب سے پہلے کس نے ٹھوکی؟ خدیجہ نے۔ مکہ کی عداوت سے اس کی حفاظت کس نے کی؟ خدیجہ کے رسوخ نے۔ میں کہتا ہوں کہ 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک محمد کی زندگی میں اگر کوئی کمال ہے تو وہ کمال صرف خدیجہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد اس وقت واقعی پیغمبر تھا، اگر یہ حق ہے تو واقعی وہ



پسغیری خدیجہ ہی کی دین تھی۔

لیکن جب خدیجہ مر گئی، تو محمد نے مکہ سے ہجرت کی، اور اس کے بعد مائی سودا سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی، حفصہ سے شادی کی۔ زینب نمبر 1 ”عرف سلمہ (بیٹی کی بہو)“ سے، زینب نمبر 2 ”عرف حبیبہ (دوسرے کی بیوی)“ سے، میمونہ سے، جویریہ سے، ان سب سے تو شادیاں کیں اور قبطی لونڈی ماریا کو یوں ہی (بغیر شادی کیے) اپنے گھر میں رکھ لیا۔

محمد 50 سال کا تھا جب خدیجہ کی موت ہوئی، اور 62 سال کا تھا جب وہ خود مر گیا۔ ان 12 سالوں کے عرصے میں جناب نے 10 عورتیں کیں، یعنی سوا سال میں ایک عورت۔ کیا ہم محمد پر بہت شادی کرنے کا الزام لگا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، زبان جل جائے، اگر ایک بات بھی محمد کے حق میں ایمان کے خلاف کوئی بات زبان پر آجائے۔ اور مہاتما گاندھی نے اسے پاکیزہ تخلیق کہا ہے۔ محمد آپ پاک، اس کا خیال پاک، تب پر مہاتما کی پاکیزہ تخلیق پر اس کی نظر نہ پڑتی تو اور کس پر پڑتی؟

Jurat-e-Tehqiq
ہنری ہشتم جو انگلستان کا بادشاہ تھا، اس کی ساری عمر شادی اور طلاق میں گذری۔ اس کی بادشاہت کے حالات لمبے چوڑے تھے جنھیں یاد کرنا بھی مشکل تھا۔ آخر میں نے اس تیر کو پکڑا، اس کی بیویوں کے نام یاد کر لیے، ان کے حاصل کرنے اور خود سے الگ کر دینے کے طریقے یاد کر لیے، اس طرح ہنری کے واقعات سے بھری تاریخ سب یاد ہو گئی۔



ہنری ہشتم نے 6 شادیاں کیں اور ان میں ہی ساری عمر ختم کی تھی، محمد نے صرف 12 سال میں ان سے کہیں زیادہ شادیاں کی ہیں۔ بس، محمد کی زندگی ہنری ہشتم کی زندگی کی بہ نسبت کہیں زیادہ رنگیں کہی جاسکتی ہے۔

مثلاً، کسی لڑائی میں حضرت کو فتح حاصل ہوئی تو مانا گیا کہ پرماتما کی پاکیزہ تخلیق کی سندرتا آنکھوں کے سامنے آگئی ہے۔ بس، پھر کیا تھا، وہیں محفوظ جم گئی اور لڑائی میں جن کے عزیز دوست کھو گئے تھے، وہ تورور ہے ہیں۔ یقینوں کو باپ کا غم، بیواؤں کو شوہروں کا غم، لیکن کیا رنگیلار رسول ماتم پرسی دکھاتا ہے؟ حرم بھی بڑھاتا ہے، آٹھوں پھر دلہابنا ہوا ہے، دعوتیں اڑ رہی ہیں، دو کھجوریں کھائیں اور بیوی گھر میں رکھ لی، کئی ابھا گنیں تو سہا گنیں ہو گئیں۔

حضرت عائشہؓ کی سب سے پیاری بیوی فرماتی ہیں کہ محمدؐ کو تین چیزیں پیاری تھیں۔ اول عورت، دوم خوشبو، سوم کھانا۔ کھانے پینے کی توکی ہی نہیں رہی، رہی خوشبو کی بات، وہ تو حسب خواہش ملی کیوں کہ عورتیں تو حضرت کے لیے پسندیدہ کھیل تھیں۔ ان حالات میں اگر میں اپنے اس رنگیلے رسول کو ”بیویوں والا“ کہہ دوں تو کیا مناسب نہ ہو گا؟ بیویوں والا کہا اور محمدؐ کو پالیا، محمدؐ کی روح کو پالیا۔ اس کی اصلی رنگیلی تصویر آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑری ہو گئی۔

جیسے کرشن ”بانسری والا“ ہے، گرو گوبند سنگھ ”کلکنی والا“ ہے، رام ”کمان والا“ ہے، دیانتند ”ویدوں والا“ ہے، ویسے ہی محمد ”بیویوں والا“ ہے جو سب پیغمبروں کی شان ہے اور محمدؐ کی شان اس کی بیویاں ہیں۔ بولو:

”بیویوں والے کی جے۔“



محمد کا تجربہ

میں محمد پر کیوں فدا ہوتا ہوں؟ کیا اس لیے کہ اس نے 12 بیویاں کی تھیں؟ نہیں نہیں، بھائیوں میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بیویوں سے گھر بھر لینا کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ آئے ہیں کہ یہ خود محمد کے لیے کڑوا گھونٹ تھا بلکہ محمد کی بڑائی اس میں ہے کہ اس نے اس کڑوے گھونٹ سے دوائی کا کام لیا۔ جیسے جیسے تجربہ بڑھا، ویسے ویسے بہت سی باقاعدے کا قائل ہوتا گیا یعنی اپنی غلطیاں مانتا گیا۔ پہلے تو مومنوں کی بیویوں پر تعداد کی قید نہ تھی لیکن بعد میں چار

کی اجازت دی۔ (سورۃ النساء: 4)

اس پر بھی یہ شرط لگائی کہ ”اگر تم ان میں انصاف کر سکو تو اتنی بیویاں کرنا۔“ یہی نہیں بلکہ اسی وقت ایک سانس میں کہا کہ ”النصاف نہ کر سکو گے۔“ بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی شادیوں کی رکاوٹ نہ تھی تو اور کیا تھا؟ خود تو بڑھاپ سے مجبور تھا کہ جسم کے ساتھ قوت تصور بھی بکھر گئی تھی لیکن جو عادت پڑ گئی، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اسے اس عمر میں بدلا بہت مشکل تھا۔ ہاں اپنے پیروکاروں کے لیے ”من نہ کردم شاحدر بکنید“ (میں نے تو پرہیز نہیں کیا، تم کرنا) کا مسئلہ چھوڑ گیا اور خود بھی اگر پہلے جنم کی کاروائیوں کو یاد کر کے دوسرا جنم لیتا تو ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے سے کانوں پر ہاتھ رکھتا۔ کیا ماریہ کا معاملہ اسے یاد نہ تھا، جب ساری کی ساری بیویوں نے سازش کر کے بوڑھے کی ناک میں دم کر



دیا تھا؟ خانہ خرابی الگ، عزت کی بربادی الگ، پھر یہ بھی خیریت تھی کہ کسی عورت سے لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا ورنہ ابراہیم کا عائشہ کے سامنے لا یا جانا اور اس کا اس کی شکل و صورت دیکھ کر ناک بھوؤں چڑھانا۔ عقل مندوں کو اشارہ ہی کافی ہے، علی اور عائشہ میں بھی ایک بعض جو محمد کی چھاتی میں روزانہ کھٹکا کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اپنے دین کے مقلدوں کو ایک گھن لگا چلا ہوں جو انہیں دھیرے دھیرے برباد کر دے گا۔

اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ صاف الفاظ میں زیادہ بیویاں کرنے کی رکاوٹ کیوں نہ کھڑی کر دی؟ لیکن حضرت کی ایسی صاف گوئی میں اپنی مثال مانع تھی۔ خود 12 بیویاں کرنے والا دوسروں کو تعلیم دے کہ تم ایک سے زیادہ نہ کرو، حد سے زیادہ جرأت کا کام تھا۔ اسے اپنی پیغمبری کی فضیلت عام مسلمانوں سے تین گنے کی اجازت تو دی گئی، اس سے زیادہ کی خاتم المرسلین کو اجازت دینا اس کی شان خصوصی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم سید امیر علی کے ساتھ متفق ہیں کہ اس آیت کے کچھ معنی نہیں۔ اگر اس میں زیادہ شادی کرنے کی روک ٹوک نہیں، ہاں لفظوں میں ڈھیل رہ گئی، جس کا برائیتیہ اسلام آج تک اٹھا رہا ہے۔ مولوی انصاف کے معنی لیتے ہیں، ”نَانٌ وَنَفْقَهٌ كَا انتظامٍ كِرْدِيَنَا“ حالاں کہ سید امیر علی اس لفظ سے محبت کی برابری، دلی جذبات تک میں کوئی رورعایت نہ رکھنا وغیرہ وغیرہ مراد لیتے ہیں۔ اس کا قول ہے کہ ایسا انصاف انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت ”كثیرالازواج“ کی واضح رکاوٹ ہے۔ ہم سید امیر علی صاحب کے خیال کو درست مانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ محمد کو اس عمر میں حوروں



کی یاد بھی نہیں آئی، جب کہ دوسری طرف جمیل جو حوروں سے تنگ آیا ہوا،
بہشت میں بھی کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے۔

اگر اہل اسلام محمد کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے اور فقیروں کی تشریح نے
محمدی شادی کو ایک بہت پیچ در پیچ مسئلہ بنادیا ہے تو اس کی ذمہ داری کچھ تو اہل
اسلام کی اپنی تہذیب کی کمزوری ہے جنہوں نے خلفاء کی نفسانی خواہشات کے
اعتبار سے جائز کو ناجائز قرار دے دیا اور پھر اس روانج کا بہت برا فائدہ خود اٹھا
رہے ہیں اور کچھ نصیحتی اشارے تک ہی مطمئن کیے جانے تک محدود ہے۔ پھر
بھی اس حقیقت کے لیے ہم محمد کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور اپنے مسلمان
بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس ”رنگیلے رسول“ کی زندگی سے نصیحت حاصل
کریں اور اس کی دوستانہ تعلیم پر اس کے لفظوں پر الٹے سیدھے خوابوں (الہام)
پر عمل نہ کریں۔

مجھے محمد پر کیوں عقیدہ ہے؟ کیا اس لیے کہ اس نے اپنے ہم جنسوں
(پیر و کاروں) کو عورتوں کے طلاق کی اجازت دی ہے اور میں اس کا ہم جنس
ہوں؟ نہیں نہیں، بلکہ طلاق کی اجازت سے تو شادی ایک عارضی رشتہ رہ جاتا ہے
اور گرہستی کا انتظام مستقل روپ سے نہیں ہوتا۔ بیگم صاحبہ بھوپال کا تجربہ جو
انہیں عرب کے حج کے دوران عرب کی عورتوں کے بارے میں ہوا ہے، وہ اس
بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب شادی بچوں کا کھیل ہو تو اس میں سنجیدگی آہی
نہیں سکتی۔ یہی سبب ہے کہ بیگم صاحبہ کو عرب میں بہت کم ایسی عورتیں میں

جنہوں نے دو سے کم شوہر کیے ہوں بلکہ اس کے خلاف دس دس شوہروں کی گھروالیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ جب ایک صنف کو طلاق کی کھلی چھوٹ دے دی جائے اور دوسری کو شوہر پرست رہنے کا پابند کیا جائے تو وہ دوسری (شوہر پرست) بھی اپنے تقنن طبع کاراستہ نکال ہی لے گی۔

ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ محمد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں پہلا ذکر عورت کا وہاں آتا ہے جہاں اسے منظوری دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ (سورۃ النساء) پیسے دے کر وجود خریدنے میں پاپ نہیں سمجھا، چنانچہ زبردستی سے یہ کچھ اچھی ہی صورت ہے۔ وجود کی قیمت لگائی گئی ہے، یہی صحیح رسول کے جنس انس پر بے شمار رحمت ہے، یہ ہوئی رحمت نمبر ایک۔ اسی کو عربی زبان میں ”متعہ“ کہا گیا ہے۔ ایران میں اب تک اسکا رواج ہے، لیکن ایرانیوں کا گناہ محمد کے ماتھے پر نہیں جڑا جاسکتا، کیونکہ ایرانیوں نے تو ایک آیت پڑھی اور وہیں گل محمد ہو گئے۔ محمد نے آگے ترقی کی، شادی کو، اس عارضی لمحاتی رشتے سے زیادہ طویل المدتی بنایا، یہاں تک کہ طلاق پر اعداد لگا دیے تاکہ کوئی میاں اگر اپنی بیوی سے روٹھ گیا ہو اور اس کا دل طلاق کے بعد بھی دوبارہ اسی طرف چلا جائے تو کہیں کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مثال نہ ہو جائے۔ اس لیے صاف کہہ دیا کہ پہلے تین طلاقوں میں ہر ایک کے بعد تین تین ماہ تک بغیر شادی کیے رہنا چاہیے لیکن یہ قانون صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ وہ اگر دو بھی کر لے گا تو بھی قرآن کی حد میں ہی رہے گا، ایک آیت کی نہ سہی دوسری آیت کی سہی۔



کیا کھر امداد ہے۔

یہی نہیں، پھر ”حالة“ کی قید لگائی ہے کہ اگر کوئی نٹ کھٹ شوہر ایسا ہی ہو کہ بار بار طلاق دیتا جائے تو اسے تیسری بار یہ کام کرتے ہوئے کچھ بھج ک ہو، لہذا، قانون بنادیا گیا کہ تیسرے طلاق کے بعد بیوی اپنے خاوند سے اس وقت بیاہی جائے جب اس کی رشتہ دوسرے شخص سے ہو جائے، یہی نہیں بلکہ ایک بستر پر رات گزار لیں۔ (سورۃ البقر، رکوع 29)

لوگ کہیں گے کہ یہ رسم تو شرمناک ہے۔ سید امیر علی لکھتے ہیں کہ یہ عرب کی شرم کو غیرت دلانے کے لیے ہے۔ رسول کا مطلب یہ تھا کہ دو سے زیادہ طلاق کسی عورت کو نہ ملے۔

”حالة“ عمل میں لا یا جائے گا، یہ قیاس تو رسول کو کبھی ہوا ہی نہیں۔ ہمیں صحیح بات ماننے میں کچھ حرج نہیں، ہم نا حق اپنے مسلمان بھائیوں کو حلالہ جیسی شرم مناک روایت کا پابند نہیں دیکھنا چاہتے؛ اگرچہ ہماری سمجھ میں اس بری رسم کے ادایکے جانے کی کچھ مثالیں موجود ہیں۔ غلطی قانون بنانے میں ہوئی ہے، محمد کی نیت کا اس میں کچھ بھی قصور نہیں ہے۔

سید امیر علی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے آگے پھر ایک اور آیت نکاح کے باب میں ہی آئی ہے۔ اس سے ”حالة“ کے حکم کو رد کرنا ہی سمجھا جانا چاہیے۔ یہ روایت محترم کی اکتوبری رائے ہے لیکن ہمارے سر آنکھوں پر۔ ہم تو سارے قرآن کو ایک طرف سے منسون کرنے کو تیار ہیں، ان کے قرآنی بھائی ان کا مشورہ تسلیم کر لیں تو ”حالة“ سے چھٹی ہو بھی جائے تو بھی طلاق کی بلا تو سر پر ہی

سوار رہی، زیادہ دیر نہ سہی دو ہی دفعہ سہی۔ البتہ وہ کچھ برا یوں کا سبب ہے۔ حضرت نے خود زینب (اپنی بہو یعنی اور بیٹی زید کی بہو) کو طلاق دلوایا تھا، کہہ کر نہ سہی، اشاروں ہی سے سہی جس کا قرآن نے سارا راز اکشاف کر دیا کہ اس وقت حضرت کے دل پر کچھ اور ہی کیفیت گذر رہی تھی۔ زبان کے بیان سے وہ کیفیت باہر تھی، حضرت دل ہی دل میں اپنی اس حرکت پر پچھتا ہے کہ پر دے کی پابندیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت کو اپنی اور زینب کی بے باک نظر شاق تھی۔ وہی بے باک نظر ہی تو طلاق کا سبب بنی تھی۔ حضرت اپنی بیویوں سے بھی تو ناراض ہوئے تھے جس کے سبب مہینے بھر تک انہیں اپنے بھر میں اور خود ان کے بھر میں تڑپایا تھا۔ اس وقت طلاق کیوں نہ دیا؟ بلکہ اس کے بر عکس ان سبھی بیویوں پر بہت بگڑے اور اللہ میاں کی معرفت خط و کتابت یعنی پیغام بھیجے اور طلاق کی دھمکی بھی دی لیکن طلاق نہیں دیا۔ روایت اس طرح ہے کہ ”جب سودا بوڑھی ہو گئی تو حضرت اسے طلاق دینے پر تیار ہو گئے لیکن سودا نے اپنا نمبر عائشہ کے لیے بدل دیا، اور اللہ میاں کی سفارش سے محمد طلاق کے گناہ سے اور سودا بے بس باری کے عذاب سے نجگئی۔“ (مسلم)

درactual محدث طلاق کو بر امان نہ تھے۔ ابھی ایک حدیث موجود ہے اور ہم تو قرآن کو بھی حدیث ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی چیز ایسی ناخوش نہیں کرتی جیسی اپنی گھروالی کو طلاق دینا یعنی کوئی ایسے خوش نہیں کرتی جیسے غلام کو آزاد کرنا۔

(”ابن ماجہ ابواب النکاح“)

حضرت نے مرتبے دم تک خود کو خوش رکھا، حضرت نے جی بھر کر بیویاں کیں اور ان میں سے ایک کو بھی طلاق نہیں دیا۔ واه، آل محمد! امت محمد کی

عقل پر تحقیق کرو۔ طلاق ناجائز۔ طلاق ناجائز۔ طلاق بالکل ناجائز

نوٹ:

اب آپ حضرت محمد صاحب کے بارے میں خصوصی معلومات اور ان کی رنگی زندگی کے خاص تجربات کا مشاہدہ بھی اگلے صفحات میں کریں۔

شکر یہ !!

قوس و قزح

قارئ! تو نے ”رنگیلے رسول“ کی زندگی کے کئی رنگ ملاحظہ کیے۔ کیا کوئی رنگ تجھ پر بھی چڑھا؟ محمد تجربہ کا پیغمبر تھا، اسکے تجربے سے فائدہ اٹھا۔ دیکھو! رنگیلے کا رنگ ایک نہیں بلکہ پورا قوس قزح ہے جس میں سالتوں رنگ موجود ہیں۔ 1۔ پچیس سال تک برہمچاریہ بنے رہئے، جیسے محمد نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے، مگر ہاں کبھی دل میں سیاہ رات کے شغل (شہوانیت سے متعلق تفریح) کا دھیان نہ لانا۔

2۔ اپنی زندگی میں بھول کر بھی چالیس سال کی بڑھیا سے شادی نہ کریو، بلکہ اگر کسی بزرگ عورت کی گود میں لیٹنا ہی ہو اور اپنی تینی کا غم مٹانا ہی ہو تو اسے ماں بنایجیو لیکن بیوی ہرگز نہیں۔



3۔ کسی کھلیتی گڑیا سے شادی نہ کریے، ورنہ گڑیا کھلیتی ہوگی اور اگر پیچھے (بیوہ کی شکل میں) رہی تو سر پکڑ کر روئے گی۔ ہاں، اگر اس پر دل ہی آجائے تو اسے اپنی لڑکی بنایجئے۔

4۔ بہو اپنے لڑکے کی بیوی ہو یا گود لیے ہوئے کی بہو ہو، اسے اپنی لڑکی ہی سمجھیو ورنہ ناحق میں ہی پر دے ڈلواتا پھرے گا اور دنیا بھر میں حسن پر پر دے اور پھرے لگوواتا پھرے گا۔

5۔ لوڈی جائز نہیں ہوتی، اس کی اولاد کو بیویاں تسلیم نہیں کرتیں، اس کے سہاگ سے بھی جلتی ہیں اور دلہے کی عیش و عشرت میں دخل دیتی ہیں۔

6۔ بیوی ایک سے زیادہ عذاب؛ گھر کا عذاب، باہر کا عذاب، روح کا عذاب، نہ خلوت میں چیلن نہ جلوت میں قرار، جو آپس میں لڑیں تو آفت اور جو متعدد ہوں تو قیامت۔

7۔ جیسے اپنی بیوہ کو دوسروں کی ماں کہتا ہے، نہیں بلکہ اللہ میاں سے کہلواتا ہے، ایسے ہی دوسروں کی بیواؤں کو ابھی اپنی ماں میں سمجھیو، یہ وجہ ہے یعنی اللہ میاں کا حکم ہے۔

اچھا حضرت رخصت۔ رسالت کے نائل کا یہ حیرت انگیز منظر ختم ہوا۔ پھر کبھی کسی دوسرے منظر کو لے کر حاضر ہوں گے، اچھا خدا حافظ !!

ختم شد



نوت:

قاری! ابھی تو نے اپنے پیارے رسول کے بیش قیمت تجربوں سے فائدہ اٹھایا، اب آگے اپنے پیارے، رنگیلے، چھبیلے اور رسیلے رسول کی رنگیلی باتوں سے بھی توفائدہ اٹھاتا کہ تیری یہ انسانی زندگی کامیاب ہو سکے۔

رنگیلے رسول کی کچھ رنگیلی باتیں

1 - ایک بار حضرت سے ایک شخص نے پوچھا؛ یا رسول اللہ! میں عورتوں کا بڑا حریص ہوں، اس لیے انہیں اوندھا (الٹا) ڈال کر بھی جماع (مبادرت) کرتا ہوں، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسی سوال کے لیے حضرت کے ذریعہ ایک آیت نازل ہوئی؛ ”عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان پر جدھر سے چاہو ادھر سے جماع کرو۔“ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ”اپنی طرف سے چت پٹ یعنی کسی بھی حالت میں جماع کرنا درست ہے۔“ (دری منثور، جلد اول، مطبوعہ مصر، صفحہ 262)

2 - ایک عورت نے حضرت سے پوچھا کہ حضور! ہمارا شوہر ہم سے چت پٹ دونوں طرف سے جماع کرتا ہے، کیا یہ واجب ہے؟ تب حضرت نے فرمایا کہ ”کیا حرج ہے اگر سوراخ واحد ہو۔“

3 - ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ ہاتھ سے کام یعنی مشت زنی کرنے پر کیا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تب حضرت نے فرمایا کہ ”غیر انزال (منی نہ نکلنے کی حالت) میں جائز ہے۔“ آگے پھر اسی سوال کے جواب میں حضرت نے یہ بھی کہا ہے کہ ”صحبت تیز کرنے کے حساب سے تو جائز نہیں۔ ہاں اگر



تسکین صحبت (مباشرت کی تسلی) کی غرض سے کیا جائے تو جلق لگانے والا گنہگار نہ ہو گا۔ اور جب کسی چوپائے سے جماع کیا جائے اور انزال نہ ہو تو اس حالت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ (در منثور، صفحہ 262، فتاویٰ قاضی خاں، جلد اول، کتاب الصوم، فصل خمس)

4 - ایک روز حضرت کی خدمت میں صفوان بن معطل کی بڑی بہن اس وقت حاضر ہوئی جب حضرت رضی اللہ بھی وہاں حاضر تھے، تب ان کی بیوی نے پوچھا تھا؛ رسول اللہ! جب میں نماز پڑھتی ہوں، تو مجھے جماع نہ کرانے پر نماز نہیں پڑھنے دیتا، مارتا ہے۔ جب روزہ رکھتی ہوں تو جماع کر کے افطار کر دیتا ہے، روزانہ صبح تک مشغول جماع رہتا ہے۔ اس واقعہ کو سن کر حضرت نے فرمایا کہ ”کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نماز نہ کرے۔“ (تلبیس، جلد 4، صفحہ 48)

5 - ایک شخص نے حضرت محمد سے عرض کیا کہ حضور اگر کوئی صرف غیر انزال کے سبب عورت سے جدا ہو جائے تو کیا کرے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ؛ ”صرف جا کر دھوڈا لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے۔“
قاری! اب تو تو نے ایک مہان تجربہ کار پیغمبر کے مہان تجربے بھی حاصل کر لئے، اس لیے اب تو کم سے کم تھہ دل سے ایک بار زور سے کہہ دے کہ:

”مہان تجربہ کار پیغمبر کی جے“

تمام شد

نوٹ: اس کتاب میں جن جن کتابوں سے حوالے دیے گئے ہیں، ان سب کو صرف ”سنی مسلمان“ ہی مستند مانتے ہیں۔

محمد رفیع



عرض مترجم

زیر نظر کتاب ”رُنگیلار سول“ کا نام میں نے ایام طالب علمی میں سناتھا، لیکن پڑھنے کا اتفاق گذشتہ سال ہی ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کتاب پر ہندوستان، پاکستان اور بھلے دیش میں کافی برسوں سے پابندی عائد ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ بھلا ان پابندیوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں، سوانظر نیٹ میں کسی بھلے آدمی نے اسے اپ لوڈ کر دیا اور یوں اب یہ کتاب ہماری دسترس میں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت جو نسخہ ہاتھ لگا ہے، شاید وہ اس کا پہلا ایڈیشن نہیں ہے، کیوں کہ زیر نظر نسخے کے سرورق پر پبلشر ”محمد رفیع، تکاری منڈی، دلی-6“ شائع ہے جب کہ اندر کے صفحات پر بحیثیت پبلشر ”شہید اعظم مہاشے راج پال، لاہور“ چھپا ہوا ہے۔ پھر اس نسخہ کا انتساب بھی اس کے اصل پبلشر راج پال کے نام معنوں ہے اور مصنف نے اسے جذباتی انداز میں اپنا خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ زیر نظر نسخہ راج پال کے قتل کے بعد کا ہے، اس کا اصل نسخہ برٹش لاہوری میں موجود ہے۔

در اصل ”رُنگیلار سول“ 1920 میں پنجاب کے آریہ سماجی اور مسلمانوں کے درمیان برپا ہونے والے مناقشے کا نتیجہ ہے۔ یہ تمازعہ کتاب پیغمبر اسلام کی خانگی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف ایک آریہ سماجی پنڈت چھوپتی ایم اے یا کرشن پرشاد پرتاپ ہیں جنہوں نے 1927 میں اسے پہلی بار شائع کیا۔ اس کے لاہوری پبلشر راج پال نے مصنف کے اصل نام پر سے کبھی پردہ نہیں اٹھایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس پمپلٹ کارڈ عمل تھا جسے ایک مسلمان نے



شائع کیا تھا اور جس میں ہندوؤں کی مقدس دیوبیستا کورنڈی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا۔

مسلمانوں نے اس کتاب پر اپنا سخت رد عمل دکھایا، ان کی شکایت پر اس کتاب کے پبلشر راج پال کو گرفتار کر لیا لیکن پانچ سال بعد اپریل 1929 کو اسے رہا کر دیا گیا، کیوں کہ اس وقت توہین مذہب کے خلاف کوئی قانون نہیں تھا۔ کئی ناکام حملوں کے بعد، بالآخر علم دین نام کے ایک نوجوان نے 6 اپریل 1929ء کو راج پال کو خنجڑ سے قتل کر دیا۔

اس کتاب کا رد عمل کئی سطح پر نظر آیا، مثلاً مولانا شنا اللہ امر تسری نے اس کے جواب میں ”مقدس رسول“ لکھا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے دباؤ میں انگریزی حکومت نے 295A Hate Speech Law Section نافذ کیا جو کسی بھی مذہب کے بانی یا رہنمائی توہین کو جرم قرار دیتا ہے۔ اسی برٹش قانون کا تسلسل پاکستان میں ”قانون توہین رسالت“ کی شکل میں جاری ہے۔

مجھے ذاتی طور پر اس کتاب میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، جس پر مسلمان اتنے پریشان ہو جائیں۔ کیوں کہ مصنف نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ صحاح ستہ اور مستند تاریخی کتب میں سینکڑوں سال سے موجود ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مصنف کا لہجہ اکثر جگہ تمسخرانہ اور طنز سے بھر پور ہے لیکن اس پر حقائق کو توڑنے کا الزام عائد کرنا اپنی ہی روایتوں سے مجرمانہ بے خبری کا اشارہ یہ ہے۔ میرے خیال میں اس کتاب کی مقبولیت اور مسلمانوں کی اشتعال انگریز مخالفت کا سبب شاید یہ رہی ہو کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کا دائرہ کافی محمد و دخاء، الہذا ممکن ہے کہ عام ہندوستانی مسلمان کیلئے رسول اللہ کی خانگی زندگی

کے سربستہ رازوں سے پہلی بار پر دہ اٹھ رہا ہو، ورنہ دور حاضر میں انظر نیٹ اور سو شل میڈیا نے سارے سربستہ راز طشت از بام کر دیے ہیں۔ فیس بک میں سینکڑوں ایسے گروپ موجود ہیں جہاں دلائل و حوالوں سے شب و روز تنازعہ اور نازک مسائل پر بحثیں چلتی رہتی ہیں، اور ان بحثوں میں اتفاق اور اختلاف کا بازار گرم رہتا ہے۔ اس تناظر میں مجھے یہ کتاب بے ضرر سی محسوس ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، لہذا میں نے علامہ ایاز نظامی صاحب کے حکم پر اس کے ترجمے کا بار اپنے سر پر لے لیا۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس کتاب کا اصل نسخہ اردو میں ہی شائع ہوا تھا جواب برٹش لائبریری میں موجود ہے لیکن جیسا کہ میں اوپر عرض کر چکا ہوں کہ زیر نظر نسخہ ہندی میں ہے لیکن اغلب ہے کہ یہ نسخہ بھی پنڈت چھوپتی ایم اے کی زیر نگرانی شائع ہوا تھا جو اس کے انتساب سے عیاں ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ شاید مجھ سے پہلے کوئی اور صاحب کر رہے تھے، لیکن اپنی عدم الفر صتی کے سبب اسے مکمل نہ کر پائے، بعد میں، میں نے ایاز نظامی صاحب کے پیغم اصرار کے بعد ہاتھ بٹایا اور انجام بخیر ہوا۔

اس کتاب کے ترجمے کی صحت پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ذاتی طور پر میں نے ایمان داری کا پاس رکھا ہے کہ ترجمے کا کام صرف متن کی منتقلی ہی نہیں بلکہ مصنف کے ثقافتی مزاج اور اس کے مافی الصمیر کی نمائندگی بھی ہے۔ زیر نظر نسخہ کافی پر اناء ہے اور اس کی میرے پاس صرف سافٹ کاپی ہے۔ کئی جگہ املا، قواعد کی غلطیاں راہ پا گئی ہیں، کئی جگہ جملے بے ربط ہیں اور کچھ جگہ بوسیدہ کاغذ ہونے کے سبب تحریر میں دھندا چکی ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ املاء اور قواعد کی غلطیوں کو

زیادہ سے زیادہ دور کر سکوں، بے ربط جملوں کو مصنف کے گذشتہ جملے کے اعتبار اور اس کے موقف کے تناظر میں درست کر سکوں۔ جہاں ایک آدھ جملے مندل ہو چکے تھے، انہیں قیاس کی بنیاد پر بقیہ متن سے ربط دینے کی بھی کوشش کی۔ کتاب میں جہاں حوالے درج کئے گئے ہیں وہاں کئی مقامات پر حوالے واضح درج نہیں ہیں میں نے وہاں کسی تصرف کے بجائے جو لفظ جیسا لکھا ہوا تھا ویسا ہی اردو میں درج کر دیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک بات سختی کے ساتھ واضح کر دوں کہ اپنی جانب سے میں نے نہ تو متن میں کچھ اضافہ کیا ہے اور نہ کچھ ترمیم۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ ہندی الفاظ کا اردو متبادل ہونے کے باوجود انہیں من و عن رکھا، تاکہ مصنف کا ذور بیان اور اس کا تخلیقی مزاج کھل کر سامنے آئے۔

محمد ماجد

(مترجم)

Jurat-e-Tehqiq

اردو مترجم

پیشکش:

جرأت تحقیق

